

تو آخر میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو  
اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ  
دھوکے اور چالاکی سے حقیقت کیسے بدلوگے  
اسنا نہ آخرا فانہ ہے حقیقت پھر حقیقت ہے

# حکایات حضرت

## قرآن و احادیث سے



الصال ثواب الحسن

مصنف: جناب مولانا عالم السین صاحب محترم سنتھوری چشتی شیخ مالکی

مکتبہ محمد یہ سیفیہ راوی ریان شریف



# ﴿ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں ﴾

: نام کتاب: ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے

: مصنف: جناب مولانا غلام سعین

: شاعت: چہارم 2004ء

: پروف ریڈنگ: جناب حضرت علامہ حافظ نور احمد قادری

: مدرس جامعہ مدینۃ العلم عالم چوک گوجرانوالہ و مہتمم جامعہ فاطمیہ گوجرانوالہ

: تعداد: گیارہ سو

: کمپوزنگ: مسلم پرسپس (C/I 4 در بار مارکیٹ لاہور)

: قیمت:

العام

ایصال ثواب یعنی ختم کے جواز پر ہمارے پیش کردہ دلائل کو غلط ثابت کرنے والا ستر 70 ہزار روپے نقد انعام کا حق دار ہے۔

## فہرست

نمبر شمار	صفحہ	مضامین
1	3	تقاریب
2	7	مقدمہ
3	8	ایصال ثواب کا نام ختم کیسے پڑا
4	11	ایصال ثواب یعنی ختم کی ضرورت
5	19	ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے
6	20	قرآن پڑھنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
7	21	ذکر کرنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
8	25	قرآن پاک کی تلاوت کا ثبوت قرآن و احادیث سے
9	25	درود شریف پڑھنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
10	26	دعائیگانے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
11	30	احادیث مبارکے سے ایصال ثواب کرنے کا ثبوت
12	36	اللہ تعالیٰ کی عبارت کا ثبوت قرآن و احادیث سے
13	38	ہر نیکی صدقہ ہے اس کا ثبوت احادیث مبارکے سے
14	40	کھانا کھلانے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
15	44	غیر تو غیر خاص اپنے گھروں سے بھلانی کرنے میں بھی اجر ہے اس کا ثبوت احادیث مبارکے سے
16	46	خبردار
17	50	ختم یعنی ایصال ثواب پر چند اعترافات کے جوابات
18	80	قرض کا ادا کرنا
19	86	حضرت امام جعفر صادقؑ کے کوئندوں کا مسئلہ
20	92	میلے اور عرس کرنا
21	104	حدیث کی آڑ میں قرآن کی مخالفت کرنا
22	106	گیارہویں شریفؑ کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن و احادیث سے
23	109	ضروری اعلان
24	112	چند نصیحت اموز داقعہ
25	117	غریب لوگوں کیلئے نہایت ہی مفید اور ضروری پیغام
26	122+120	چنانچہ + خلاصہ

## ﴿تقریظ﴾

شیخ الحدیث استاذ العلما حضرت علامہ مفتی غلام فرید ہزاروی  
صاحب جامعہ فاروقیہ رضویہ محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ

الحمد لله رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء  
والمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین الی یوم الدین اما بعد  
حضرات گرامی ختمت مروجہ کا جواز یعنی استحباب تو شک و شبہ سے بالاتر ہے مگر ضد و عناد کا کوئی  
علام نہیں ہے اور وہابیہ دین بندی کی مذہبی گاڑی توہیش سے جھوٹ اور بد دیانتی کے سہارے ہی  
چلتی آئی ہے اور ان کو نسلم کی مرض بھی دائی لاحق ہے اور بعض رسالت اور ولایت نے تو ان کو اتنا  
اندھا کر دیا ہے کہ ان کو جواز و استحباب نظر ہی نہیں آتا حالانکہ ایسے امور کا جواز و استحباب تو ان کے  
اکابر کا معمول رہا ہے۔ بہر حال علامہ صاحب کی کتاب ہذا کوبنده نے بعض مقامات سے دیکھا  
ہے اور نہایت ہی مفید پایا ہے خصوصاً عوام الناس کے لئے تو بہت ہی مفید ہے بنده کی دعا ہے کہ  
اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے آمين یا رب العالمین بجاہ طویل صلی اللہ  
علیہ وآلہ الی یوم الدین۔

جواب حضرت علامہ غلام مصطفیٰ حنیف صاحب مدرس

دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ رجسٹرڈ 477 a ماؤن ٹاؤن گوجرانوالہ

حامداً ومصلیاً اما بعد حضرت مولانا غلام یسین صاحب خنی ماتریدی نقشبندی چشتی محمدی سیفی مدظلہ  
العالیٰ کی کتاب دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئی کہ جس میں ختم کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں

پر قلم کیا گیا ہے اور یہ اس گئے گز دے دور میں ایک ایسی کاوش ہے کہ جس کی دور حاضر میں اہم ضرورت تھی۔ کیونکہ اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے عقلی دلائل سے ہی کئی امور مستحبہ کو ناجائز اور حرام فرار دینے کیلئے طرح طرح کی چالیں چلائی جا رہی ہیں جو کہ اصل میں قرآن و احادیث سے ثابت ہیں اور مولانا موصوف نے بھی خصوصاً اسی طرف توجہ مبذول کرنا چاہی ہے اللہ کریم انکی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے آئین ثم آمین۔

### بیرونی طریقت رہبر شریعت جانب حضرت علامہ مقصود احمد محمدی سیفی کا منکی

حامداً و مصلیاً اما بعد: حضرات محترم موجودہ زمانہ کس قدر تنگ و تاریک ہوتا جا رہا ہے محتاج بیان نہیں اس پر فتن و پرآشوب دور میں مختلفین لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کیلئے دن رات کرشش کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے تحت مسلہ ایصال ثواب یعنی ختم کو بھی کبھی ناجائز کبھی بدعت کبھی حرام اور کبھی شرک کہہ کر لوگوں کو اس سے تنفر کرنا چاہتے ہیں لہذا وقت کے اہم تقاضے کے پیش نظر سلیمانی اردو زبان میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جس میں اس اہم مسلہ ایصال ثواب یعنی ختم کے ثبوت کا حل قرآن و احادیث سے ہو تو اس سلسلے میں نظر انتخاب مجاہد ملت صوفی باصفاء استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام لیمیں صاحب محمدی سیفی دام اقبالہ پر پڑی کہ موصوف نے کثیر مصروفیات و سخت عدم الفرصة ہونے کے باوجود بھی اس کتاب کا مسودہ تیار فرمایا اور پھر اس کی نظر ثانی کا موقع مجھے دیا جس کو پڑھ کر بے پایا مسرت و سرور قلبی حاصل ہوا کتاب کا ظریز بیان عام فہم اور مدلل ہے انشاء اللہ دین متنیں کے پیروکاروں اور حق کے متلاشیوں کے لئے مدد و معادن اور مشعل راہ ثابت ہو گی ہم مصنف کے لئے دعا گو ہیں گذ جنہوں نے بڑی محنت اور جانشنازی کے ساتھ کتاب کی تصنیف فرمائی خداوند قدوس ان کی نیک کاوش کو منظور و مقبول اور مستحباب فرمائے۔ آمین بجاه سید المرسلین و راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

## ﴿جناب حضرت مولانا قاری محمد دلاور حسین صاحب﴾

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد حضرات گرامی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم کو جو کچھ رسول پاک عطا کریں اس کو لے لواور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔  
 (پ 284 ع 7)

حضرات محترم: اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف سے گراہی بڑھ رہی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل جو حلال اور جائز ہیں ان کو حرام اور ناجائز کہنا شروع کر دیا ہے اور انہیں مسائل میں سے ایک مسئلہ ایصال ثواب بھی ہے جو کہ جای بجا لوگوں کے درمیان موضوعِ خن بننا ہوا ہے اور حضرت علامہ مولانا غلام یسین صاحب نے اس کا حل بڑا مختصر اور مدل تحریر فرمایا ہے میرے خیال میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس موضوع پر کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ کتاب اس قدر جامع ہے کہ مسئلہ ایصال ثواب کو ہر طرح سے پوری خوبیوں کے ساتھ واضح کر رہی ہے لہذا اس کے مطالعہ کے بعد آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایصال ثواب یعنی ختم نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس مسئلہ کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے اور لوگوں کی اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کر دیا ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا اور اس ایصال ثواب کو نہ تو اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر یہ حرام کیسے ہو گیا ہے مولانا صاحب نے یہ کتاب تحریر فرم کر عوام اہلسنت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مولانا صاحب کو اس سعی کے بدلے

دارین کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ اس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

### ﴿جناب مولانا محمد علی صاحب مارٹی ٹھا کرال مصطفیٰ آباد﴾

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد  
 برادران اسلام: استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام ٹیئن صاحب خنی ماتریدی محمدی سیفی نقشبندی چشتی بد ظله العالی نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے کہ جو پوری امت میں سخت اختلاف اور جا بجا بحث مبارحت کا سبب بنا ہوا ہے تو انہوں نے اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی مدل اور مختصر کتاب لکھی ہے کہ اس موضوع پر ایسی مدل کتاب اس سے پہلے میری نظروں سے نہیں گزری لہذا جو شخص بھی ایمان اور انصاف کی نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کرے گا انشاء اللہ اس کے بے شمار شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے کیونکہ مولانا صاحب نے صرف اور صرف قرآن و احادیث سے دلائل پیش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ختم یعنی الیصال ثواب کا ثبوت قرآن و احادیث میں کھلے الفاظ م موجود ہے جو با انصاف و با ایمان آدمی اس کو پڑھے گا انشاء اللہ اس کو یہ مسئلہ ختم اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا پھر اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی انکار کرتا پھرے گا تو یہ اس کی ضد، کینہ، حسد اور بعض کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو گا کیونکہ مولانا صاحب نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ کھول کر واضح کر دیا ہے کہ یہ ختم یعنی الیصال ثواب جائز ہے۔

## ﴿ مقدمہ ﴾

نَحْمَدُهُ وَنَصْلِي وَنَسْلِمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ إِمَّا بَعْدَ عَزِيزَمْ هُمْ أَپْنَى  
اس تصنیف میں ایصال ثواب یعنی ختم پاک کا ثبوت قرآن و احادیث سے مدلل انداز میں پیش کر  
رہے ہیں لہذا جسے شک ہو وہ کسی ختم شریف کی محفوظ میں بیٹھ کر ان دلائل کو سامنے رکھ کر تجربہ کر لے  
اگر صحیح ہوں تو مان کر مخالفت کرنا چھوڑ دے اور اگر صحیح نہ ہوں تو انشاء اللہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں وہ  
ہم سے مل کر بات کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اسی چیز کا جائز ہونا ثابت کیا ہے جو ہم ختم میں  
کرتے ہیں مثلًا تلاوت قرآن درود پاک اور دعا وغیرہ اور اس چیز کا نہیں جو ہم ختم میں نہیں کرتے  
مثلاً خلاف شرع کام وغیرہ۔

عزیزم آج کل مخالفین نے صرف اور صرف ضد بازی اور حسد کی وجہ سے اعتراضات کے وہ  
طوفان برپا کر رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے سادہ لوح مسلمان ان اعتراضات کے سیلا ب  
میں پھنس کر رہا فرار اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار اسے علماء کا فتویٰ سمجھ کر علماء سے  
نفرت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں مگر ہے کوئی آج ایسا جوان جو یہ ہمت کرے کہ میں خود قرآن  
پاک اور احادیث مبارکہ سے ورق گردانی کروں اور اس فساد کا خود فیصلہ کروں کہ جس کی وجہ سے  
جگہ جگہ بحث مبارکہ ہے لڑائی جھگڑے اور مناظرے وغیرہ ہو رہے ہیں۔

ایسی عقل نہ کسی کو دے خدا  
کہ پاس ہوتے ہوئے قرآن و احادیث بھی جو ہو تباہ  
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کو رسول پاک عطا فرمادیں اس کو لے لو اور جس سے منع  
کریں اس سے باز رہو۔ (پ 284 ع 7)

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گز ارنے کیلئے قرآن و احادیث کا ذخیرہ ہی عطا فرمایا ہے لہذا ہمارا مقصد بھی صرف ختم یعنی ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و احادیث سے پیش کر دینا ہے اور پھر بعد میں مخالف کی مرضی ہے مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی قسمت اور مقدار کا سودا ہے۔

اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد

نہیں ہے دادکا طالب یہ بندہ آزاد

کیونکہ بے شمار لوگ صرف اس کشمکش میں ہیں کہ شاید اس ایصال ثواب یعنی ختم کا ثبوت قرآن و احادیث میں بھی موجود ہے یا نہیں لہذا ہم صرف اسی لئے ہی اس ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و احادیث سے پیش کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں اور وہ یہ ہے کہ اس ایصال ثواب کے چند نام ہیں مثلاً ایصال ثواب ختم شریف اور فاتحہ وغیرہ۔

## ﴿اس ایصال ثواب کا نام ختم شریف یا فاتحہ کیسے پڑا﴾

عزیزم شروع شروع میں مسلمان جس طریقے سے بھی ایصال ثواب کرتے تھے سو کرتے تھے لیکن جب ایصال ثواب کیلئے قرآن مجید ختم کر کے اس کا ثواب بھی فوت شدہ کو پہنچانے لگے تو اس عمل کا نام ایصال ثواب کی بجائے ختم کا نام زیادہ مشہور ہو گیا کیونکہ روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اسے ختم کرے اور پھر دعائیں لے تو چار ہزار فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور پھر وہ اس کیلئے صحیح و شام تک بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں (تفسیر روح البیان ج 7 ص 66 نہت المجالس ج 1۔ 207) اور ایک حدیث میں ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بد لے میں دس نیکیاں ملتی ہیں (مشکوٰۃ باب فضائل قرآن) حضرت امام ابو بکر عسقلانی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو خیال آیا کہ عرض کروں کہ الہی تیرے نے زدیک کون سی عبادت افضل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت پھر خیال آیا کہ طہارت کے ساتھ یعنی وضو

کے ساتھ یا بغیر وضو کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہو سکے پھر خیال آیا کہ نماز میں یا بغیر نماز کے تو فرمایا کہ جس طرح کر سکو پھر خیال آیا کہ اعراب یعنی مطالب و معانی کے ساتھ یا بغیر اعراب کے تو فرمایا جیسے کہ سکو پھر فرمایا اعراب کے بغیر ہر حرف کے بدلتے دس دس نیکیاں اور اعراب کے ساتھ بیس بیس نیکیاں اور ہر ایک نیکی کا وزن ایک ہزار رطل کے برابر ہے اور ہر رطل ہزار درنگ کے برابر ہے اور ہر درنگ ہزار درہم کا اور ہر درہم ہزار قیراط کا اور ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے (نزہت المجالس ج/۱۔۲۰۷) تو جناب اب پورے قرآن کے ختم کے ثواب کا خود اندازہ لگائیں کہ کتنا ثواب ملتا ہوگا اور فوت شدہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا اور اسے فاتحہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی جاتی ہے الہذا یہ عمل ایک ہی ہے اور اس کے نام کئی ہیں مثلاً ایصال ثواب ختم شریف، فاتحہ، قل، ساتھ، دسوائی، اور چالیسوائی وغیرہ تو جناب اسی طرح قرآن مجید کی سورتوں کے نام دیکھ لیں مثلاً سورہ بقرہ کا نام سورۃ بقرہ اسی لئے پڑا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کاذکر نہ ہے اور سورہ نمل میں چیونٹی کاذکر ہے اور سورہ جن میں جنوں کاذکر ہے اور سورہ حجرات میں حضورؐ کے حجروں کاذکر ہے اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف کاذکر ہے اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کاذکر ہے اور اسی طرح باقی سورتوں کا حال ہے تو جناب اسی طرح اس ایصال ثواب یعنی ختم میں بھی عام طور پر قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بیسیوں دفعہ ختم کرایا جاتا ہے بس یہی وجہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کی بجائے ختم کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے تو جناب اگر کسی جائز چیز کے اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام بھی مشہور ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہو جاتی مثلاً دیکھیں کہ اس وقت علم دین حاصل کرنے کا نام درس نظامی دورہ حدیث عربی فاضل وغیرہ ہے جو کہ حضورؐ کے وقت میں نہیں تھے تو اب اگر کوئی یہ کہے کر یہ درس نظامی اور دورہ حدیث وغیرہ صحیح نہیں ہے کیونکہ

یہ حضورؐ کے وقت میں نہیں تھے تو کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ چیز تو وہی ہے جو حضورؐ نے صحابہ کرامؐ کو عطا فرمائی تھی لیکن نام میں فرق ہے تو اسی طرح احادیث کی قسموں کے نام ہیں مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، متصل، منقطع، متعلق، مرسلاً وغیرہ وغیرہ تو جناب اسی طرح اس ختم یعنی ایصال ثواب کے نام کا مسئلہ ہے کہ جو ایصال ثواب کے وقت قرآن ختم کرنے کی وجہ سے ہی ختم کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور پھر مختلفین کا اس ختم پر پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا اس ایصال ثواب یعنی ختم کا ثبوت قرآن و احادیث میں موجود ہے تو جناب ہم نے اپنی اس کتاب کا نام ہی ایصال ثواب یعنی ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے رکھا ہے تاکہ اس کے پڑھنے والے کو اس کے نام سے ہی علم ہو جائے کہ اس میں ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے ہی پیش کیا گیا ہے۔

تو عزیزم ثابت ہوا کہ دنیا میں اگر کسی چیز کا ایک نام ہو اور پھر اس کے اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام بھی پڑ جائے اور پھر وہ اسی نام سے مشہور بھی ہو جائے تو وہ صرف اس دوسرے نام کے پڑ جانے اور مشہور ہو جانے کی وجہ سے ہی حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ اس طرح تو دنیا میں تقریباً ہر چیز کے کئی کئی نام ہیں۔ مثلاً (۱) مسجد کو مسجد، خانہ خدا، عبادت گاہ، میت اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ (۲) نمازوں کو نماز، عبادت، بندگی، ذکر، پوجا وغیرہ۔ (۳) درخت، شجر، رکھا اور پیڑ۔ (۴) گاؤں، دیہات، بستی، قصبه، پنڈ وغیرہ۔ آدمی، شخص، بندہ، انسان، رجل، مانس، مرد، فرد وغیرہ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کے ۹۹ نام ہیں ایک دفعہ ابو جہل نے حضور ﷺ پر اعتراض کیا کہ یوں تو آپ ﷺ کا دعویٰ ہے کہ آپ ﷺ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ اور رحمٰن کو کیوں پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَ فَادْعُوهُ بِهَا اللَّهُمَّ هی کے واسطے ہیں سب اچھے نام پس اللہ تعالیٰ کو ان سے پکارو تفسیر نور العرفان (پ ۹۶)

۱۸۰) قل ادعوا اللہ۔ یعنی تم فرمادو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا حسن کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں  
 ۱۱۰-۱۲-۱۵) اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کئی نام مبارک ہیں اور اس کے  
 علاوہ قیامت کے دن کے بھی کئی نام ہیں جن کو آپ قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کے  
 علاوہ قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں جن کو آپ کتب تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں لہذا  
 ثابت ہوا کہ دنیا میں تقریباً ہر چیز کے کئی کئی نام ہیں تو اسی طرح اس عمل کے بھی کئی نام ہیں مثلاً  
 ایصالِ ثوابِ ختم شریف اور فاتحہ شریف، گیارہویں شریف، قل، ساتھ، دسوائیں، بیسوائیں، چالیسوائیں وغیرہ  
 اور حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ وغیرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جو کہ جائز اور صحیح ہے اور  
 ہاں کسی چیز کا نام بدلتے سے اس کی اصل نہیں بدلتی جیسے اگر کوئی شخص شراب کو شربت یا سود کو منافع  
 کہے تو یہ جائز نہیں ہو جاتے یا کوئی دودھ کو شراب کہہ دے تو یہ حرام نہیں ہو جاتا۔ لہذا جو لوگ صرف  
 ختم شریف کا نام سن کر ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ ذرا لٹھنڈے دل سے اس کی  
 حقیقت پر تو غور کریں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے اور بصورت دیگر ختم نام ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر  
 دعا مانگنے اور ایصالِ ثواب کرنے کا اور اگر کسی چیز میں کوئی صفت پائی جاتی ہو اور پھر بعد میں وہ  
 اسی صفت سے پکاری بھی جائے تو وہ حرام نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں کہ اکثر صحابہ کرام حافظ قرآن بھی  
 تھے اور محدث بھی تو اب اگر کوئی ان کے ناموں کے ساتھ یہ بھی شامل کر لے تو یہ منع نہیں ہے اسی  
 طرح ختم میں قرآن ختم کیا جاتا ہے اور ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے اس لئے اسے ختم یا ایصالِ ثواب  
 کے نام سے پکارا جاتا ہے لہذا اگر یہ حرام ہے تو قرآن و احادیث سے اس کی حرمت پر دلائل پیش  
 کریں اور 70 ہزار روپیہ نقد انعام حاصل کریں۔

## ﴿ ایصالِ ثواب یعنی ختم ﴾ کی ضرورت

عزیزم جس طرح دنیا میں مجرم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) مثلاً جیل یا تھانے وغیرہ

سے رہائی کیلئے سفارش (2) اور جتنی دیر تک قید میں ہے اتنی دیر تک کھانے پینے کیلئے خرچ وغیرہ کی تو بالکل اسی طرح فوت شدہ کو بھی قبر میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ (۱) دعا (۲) ثواب کی کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس وقت کوئی شخص فوت ہو کر قبر میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی حالت ایک ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے شخص کی طرح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قبر میں اس دعا کا بھی منتظر ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ بہن بھائی یا کسی دوست کی طرف سے پہنچے تو جب وہ دعا اس کے پاس قبر میں پہنچتی ہے تو وہ اس کو دنیا و ما فیها یعنی دنیا اور جو بچھا اس میں ہے اس سے بہتر اور پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو پہاڑوں کی مانند بڑھا کر قبر والے کو پہنچاتا ہے اور زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف استغفار اور دعائیں کرنا ہے۔

(مشکوٰۃ باب الاستغفار والتوبہ فصل نمبر 3)

اور دیکھیں کہ پر آدمی جب اپنی قبر میں بیٹھتا ہے تو ڈراہوا اور گھبرا یا ہوا بیٹھتا ہے اور سوالوں کے جواب صحیح نہ دینے پر اسے عذاب میں بمتلا کر دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ عذاب قبر)

اور فوت شدہ کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے ایسے آتے ہیں کہ جن کی آواز بادلوں کی زور دار گرج کی طرح ہوتی ہے اور ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں اور ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں بھلی کی طرح چمکتی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے بال پاؤں تک لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک موٹڈھے سے دوسرے موٹڈھے تک کئی دنوں کا فاصلہ ہوتا ہے اور ان کی پاس اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں گے۔

(موت کا منتظر 104)

حدیث میں ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں کہ جن کا

رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔

(مشکوٰۃ عذاب قبر)

مردہ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں جن کی شکل میں شعلہ زن اور سر سے پاؤں تک ڈراونے بال اور کئی ہاتھ لبے دانت کہ جن سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردہ کو چھنجھوڑ کر اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سخت لہجہ کے ساتھ کر خت آواز میں سوال و جواب کرتے ہیں۔

(بہار شریعت حصہ اول ص 19)

اور کافر کیلئے قبر میں آگ کا بچھونا پچھا دیا جاتا ہے اور آگ کا لباس پہننا دیا جاتا ہے اور جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر اتنی تجھ کر دی جاتی ہے کہ اسکی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جاتی ہیں پھر اس پر ایک انداھا اور بہر افرشہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس لو ہے کا اتنا بڑا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے پھاڑ پر مارے تو خاک ہو جائے وہ اس کے ساتھ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ مشرق و مغرب کی ہر چیز سنتی ہے

(مشکوٰۃ عذاب قبر = بہار شریعت حصہ اول ص 201)

اور قبر میں سوالوں کے جوابات صحیح نہ دینے پر اس کے لئے جہنم سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جس کی آگ دنیا کی آگ سے انہر حصے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سب سے کم عذاب والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو دنیا میں ہے تو کیا اس عذاب کے بدالے یعنی اپنی جان چھڑانے کیلئے تو وہ سب کچھ دے دیتا تو وہ کہے گا کہ ہاں۔

(مشکوٰۃ دوزخیوں کا بیان)

حضرات گرامی اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ اب اس شخص کا کیا حال ہو گا کہ جواب پن بھائی

یار دوست بلکہ تمام دنیا کو چھوڑ کر اس قدر سخت خوفناک اور خطرناک اور شنگ و تاریک اور ڈراؤنی جگہ یعنی قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جس کی سختی کے متعلق احادیث مبارکہ کے علاوہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور علماء دین نے مختلف طریقوں سے خبردار یعنی آگاہ فرمایا ہے تو کیا اب اس قدر شنگ و تاریک خطرناک اور ڈراؤنی جگہ پر اس کی امداد کرنی چاہیے یا نہیں ہاں ہاں ضرور کرنی چاہئے تواب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امداد کیسے کرنی چاہئے تو جواب حاضر ہے کہ اس کی امداد دعا و استغفار صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب کے ساتھ کرنی چاہئے جیسا کہ ہم نے قرآن و احادیث سے ثابت کیا ہے۔

حضرات گرامی دیکھیں کہ جس وقت صدر صدام گرفتار ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا کریں گے تو جناب صدر صدام پر سختی کرنے والے اور اسے سزا اور تکلیفیں دینے والے انسان ہیں نہ کہ فرشتے لیکن قبر میں فوت شدہ کو سزا اور تکلیفیں اور عذاب دینے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں کہ جن کا قد پہاڑوں جیسا ہے کہ جن کی گرز کی ایک ہی ضرب سے پہاڑ بھی خاک ہو جائیں اور دیکھیں کہ انسان کو آگ لگادی جائے تو مر جائے لیکن قبر میں دوزخ کی آگ سے دروازہ ہی کھول دیا جاتا ہے اور باقی سانپ بچھوؤں کا عذاب علیحدہ ہے تو جناب اب ہم عقلمند اور زندہ خمیر حضرات سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص اس قدر خوفناک و خطرناک اور ڈراؤنی جگہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے تو کیا دعا و استغفار اور ایصال ثواب کے ساتھ اس کی امداد کرنی چاہئے یا نہیں جب کہ وہ قبر میں اس کا سختی سے انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ نتظر دعوة تلحیقہ من اب اوام او اخ او صدیق۔ (مشکوٰۃ باب توبہ اور استغفار فصل نمبر 3)

**الصالح فی الجنة :** یعنی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمایا

دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ باب توبہ اور استغفار)

حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ جب حضور میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہر تے اور فرماتے کہ اب تم اپنے بھائی کی بخشش کیلئے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کپونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ ج/ا-ص/47 باب عذاب قبر)

حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ میں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی چیز واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کی جاسکے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگنا اور ان کی وصیت کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا (مشکوٰۃ ج/21 ص441 باب صدر حجی) حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابوسلمہ کے وصال کے وقت آپؐ نے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ اے بخش دے اس کے درجات بلند فرمائیں اور اسے بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ فرم اور اس میں اس کے لئے روشنی فرم۔ (مشکوٰۃ ج/ا-ص/344 باب مردہ کو تلقین)

حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ الہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پشاہ مانگو (مشکوٰۃ ج/ا-ص/45 باب عذاب قبر) ایک بزرگ نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم کو ہماری دعا پہنچتی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں وہ نورانی لباس کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے جسے ہم پہن لیتے ہیں۔ (شرح الصدور 287)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب میت کیلئے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو حضرت جبرایلؓ اسے نور کے طلاق میں رکھ کر میت کی قبر کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو کر فرماتا ہے کہ اے گھری قبر والے یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے تیرے لئے بھیجا ہے تو اسے قبول کر لے تو وہ اسے لے کر خوش ہوتا ہے اور اس کے وہ پڑوی ہن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا وہ

غمگین ہوتے ہیں۔ (شرح انواع ج 3 ص 369 شرح الصدور 290) یہاں غالب رابعہ بصری کے لئے بہت دعا کیا کرتا تھا انہوں نے ایک رات خواب میں ان کو دیکھا جو کہ کہہ رہی تھیں کہ اے یہاں تمہارے بھیجے ہوئے ہدیے مجھ کو نورانی طباقوں میں ریشمی رومال سے ڈھک کر پیش کئے جاتے ہیں۔ (شرح الصدور 288) (اعانتۃ الاحباب 17)

ایک دفعہ ابن قلابہ ایک قبر کے پاس سویا تو خواب میں قبر والے کو دیکھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزائے خیر دے کیونکہ جب وہ ہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب نور کے پھاڑکی مثل ہمارے پاس پہنچتا ہے۔

(شرح الصدور 287 = اعانتۃ الاحباب ص 15)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورہ تکاثر کا ثواب فوت شدہ کو پہنچائے گا تو قیامت کے دن یہ فوت شدہ اس کیلئے سفارش کرے گا۔ (شرح الصدور 293 = اعانتۃ الاحباب 24)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت قبروں میں گناہ لئے کر جائے گی اور جب قبروں سے اٹھے گی تو گناہوں سے پاک اٹھے گی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ (شرح الصدور ص 288 = اعانتۃ الاحباب ص 7)

قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں پھاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی تو وہ کہے گا کہ یہ کہہ کر کہاں سے آگئی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ تیری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہے جو تمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (اعانتۃ الاحباب ص 6)

لہذا ثابت ہوا کہ جو شخص بھی اس ختم یعنی ایصال ثواب سے روکتا ہے وہ فوت شدہ کا کھلا دشمن ہے جس کی فوت شدہ سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کیونکہ اسلاف میں یہ بات مشہور ہے

کہ مزدوں کو زندوں کے کھانے پینے سے بھی کہیں زیادہ دعاؤں کی حاجت ہے۔  
(شرح الصدور 287)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح تم اس زندگی میں خوردنوش یعنی کھانے پینے کے محتاج ہو بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فوت شدگان تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ (ایصال ثواب کی شرعی حیثیت 46)

اسی لئے تر روح دعاؤں کے انتظار میں رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون میرا ہمدرد میرے لئے دعا و استغفار یا ایصال ثواب کرتا ہے یعنی مرنے کے بعد روح دیکھتی ہے کہ کس طرح اس کا مال تقسیم ہوتا ہے اور کس طرح اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے اور دیکھتی ہے کہ کون میرنے لئے دعا کرتا ہے اور کس کو میرا غم ہے۔ (ایصال ثواب کا شرعی طریقہ 148)

طبرانی بیہقی و دیلمی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سے گناہ گارائیے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد عالم بزرخ میں اپنے گناہوں کے بوجھتے دنبے رہنے کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں کہ شامکد ہماری مغفرت کیلئے کوئی پہنچ جائے یعنی کوئی ہماری بخشش کیلئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دے وہ مسلسل پشیمانی اور پریشانی میں بدلدار ہتے ہیں اور جب کوئی نیک عمل کر کے ان کی بخشش اور بلندی درجات کیلئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو وہ مغفرت اور بلندی درجات کا تحفہ جب ان کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ محل جاتی ہے اور وہ خوش ہو کر واپس لوٹتے ہیں اور بزرخ میں اپنے پڑوسیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ میرے پچھلوں نے بھیجا ہے تو جن کو دعائے مغفرت ایصال ثواب اور صدقہ و خیرات کا تحفہ نہیں پہنچتا وہ ان کے تحفوں کو دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میرے پچھلے بھی انکی طرح میرا بھی فکر کرتے۔

(ایصال ثواب کی شرعی حیثیت 47)

— ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبروں والے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حلقة باندھ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان میں ایک نوجوان ہے جس کے پڑے میلے مغموم چہرہ اور پریشانی اور اداسی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اتنے میں ثواب کے تخفے آئے اور تمام اپنے اپنے تخفے لے کر خوش ہوتے ہوئے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے اور آخر میں وہ بے چارہ نوجوان ہی بیٹھا رہ گیا جس کے لئے کچھ نہ آیا تو وہ اداس اور عُملگیں ہی اٹھ کر اپنی قبر میں داخل ہونے لگا تو اس سے اس کی اداسی کا سبب پوچھاتو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ یہ تخفے ان کے خیر خواہوں نے بھیجے تھے جو جم德 کی رات کو ان کو پہنچتے ہیں اور میں سندھ کا رہنے والا ہوں اور اپنی والدہ کو حج کیلئے لے کر آیا تھا اور بصرہ پہنچا تو میں فوت ہو گیا اور والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور مجھے بھول گئی ہے لہذا اب میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے یاد کرے تو اس نے خواب میں ہی اس کی ماں کا پستہ پوچھا تو اس نے بتایا آنکھ کھلی تو اس کی ماں سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں بننے لگے اور کہنے لگی کہ وہ میرا بیٹا میرا کلیجہ تھا اور اس کے ایصال ثواب کیلئے ایک ہزار درہم دیئے تو اس نے خیرات کر دیئے تو دوسرے جمده کی رات کو دیکھا کہ وہ جوان بھی دوسرے فوت شدہ لوگوں کے ساتھ سفید کپڑے پہنے ہوئے نہایت ہی خوش ہے اور وہ قریب آ کر کہنے لگا کہ اے صالح اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے کیونکہ مجھے وہ ثواب کا تخفہ پہنچ گیا ہے۔ (اعانۃ الاحباب ص 47) جو شخص گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنے گا تو مردوں کی تعداد کے مطابق اسے بھی اجر ملے گا۔

(شرح الصدور 293 = دیگر صادقین 159) (اعانۃ الاحباب ص 47)

حضرت ابو ہریرہؓ سے رویت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ درجہ مجھ کو کیسے مل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درجہ تجھے تیرنے بیٹھے کے استغفار کی وجہ سے ملا ہے۔

(مشکوٰۃ حج 1 ص 515 باب توبہ و استغفار)

## ﴿ ختم کا ثبوت قرآن و احادیث ﴾

حضرات گرامی جس طرح نماز اور حج وغیرہ چند نیک اعمال کا مجموعہ ہے اسی طرح ختم بھی چند نیک اعمال کا مجموعہ ہے مثلاً دیکھیں کہ۔

اسلام کے پانچ رکن ہیں پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ پانچواں حج ان میں سے دیکھیں کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے اس کے دو جزو ہیں یعنی توحید اور رسالت اور یہ دونوں جزویٰ قرآن مجید میں موجود تو ہیں لیکن قرآن مجید میں یہ دونوں ایک جگہ نہیں ملتے مثلاً دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ (پ 26 ع 19 آ 26) میں ہے اور محمد رسول اللہ (پ 26-ع 12 آ 29) میں ہے اسی طرح نماز بھی چند جزیات کا مجموعہ ہے یعنی قیام، تکبیر قراۃ، رکوع، سجدة، تشهد، تسبیح، تکبیریں، قومہ، جلسہ اور سلام وغیرہ اور پھر نمازوں کے نام رکعات کی تعداد اور نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ وغیرہ یہ سب چیزیں قرآن و احادیث میں موجود تو ہیں لیکن قرآن و احادیث میں ایک جگہ نہیں ملتیں۔ یعنی قرآن مجید میں صرف حکم ہے کہ نماز پڑھو لیکن یہ معلوم نہیں کہ کوئی نماز کیسے اور کتنی رکعات پڑھنی ہیں اس بارے میں پورا قرآن مجید خاموش ہے اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مکمل مسائل صرف قرآن مجید سے ہی نہیں بلکہ کچھ قرآن مجید سے اور کچھ احادیث مبارکہ میں سے ملتے ہیں۔

تو برادران اسلام اسی طرح یہ ختم بھی چند چیزوں یعنی چند اجزاء کا ایک مجموعہ ہے اور یہ اجزاء بھی کچھ قرآن مجید سے اور کچھ احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں مثلاً دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے ختم یعنی ایصال ثواب کیلئے قرآن مجید ختم کرانے کیلئے اپنے عزیز واقارب میں سپارے وغیرہ پڑھنے کیلئے تقسیم کرتے ہیں اور اس کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن و احادیث میں

کھلے الفاظ موجود ہے۔

﴿1﴾

## ﴿قرآن پڑھنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے﴾

۱۔ فاذْ أقْرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعْزِبْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ  
(پ ۱۹۸ ع ۱۹)

جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی بناہ مانگو۔

۲۔ وَاذَا قَرَى الْقُرْآنَ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَانصُتوْ عَلَكُمْ تَرَحْمُونَ  
(پ ۲۰۴ ع ۱۳۹)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر حرم کیا جائے۔

۳۔ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكُورِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُورٍ  
(پ ۱۷۸ ع ۲۷)

اور تحقیق ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے لئے آسان فرمادیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

۴۔ وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَوْقِيلًا (پ ۲۹۱ ع ۲۹)  
اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

۵۔ فَاقْرِءْ وَامَا تَيْسِرْ مِنَ الْقُرْآنِ (پ ۲۰۲۱ ع ۲۹)  
قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھو۔

۶۔ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكُورِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُورٍ (پ ۲۷۸ ع ۲۷)  
بے شک ہم نے قرآن مجید یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

حدیث نمبر ۱: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر  
کم من تعلم القرآن وعلمه۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔

2۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگا رہے اور  
جب طبیعت گھبرا جائے تو اٹھ کھڑے ہو۔

3۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اوپنچی آواز میں قرآن پڑھنا ظاہری صدقہ کرنے کی مانند ہے  
اور آہستہ قرآن پڑھنا چھپا کر صدقہ کرنے کی مانند ہے۔

4۔ جو شخص قرآن کی دو آیتیں پڑھے یا سکھا دے تو یہ بہتر ہے اس کے لئے دو آنٹیوں سے اور  
آیتوں کی تعداد آنٹیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ تو جناب ثابت ہوا کہ اسکی پہلی جز قرآن و  
احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

## (2)

### ﴿اللَّهُ تَعَالَى كَذِكْرَ كَرْنَے کا ثبوت قرآن و احادیث سے﴾

اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کرتے ہیں مثلاً دس ہزار دفعہ کلمہ شریف، دس ہزار دفعہ  
درود شریف، اور دس ہزار دفعہ استغفار، سورتیں اور نوافل وغیرہ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے  
ذکر میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جائز ہونے کا ثبوت بھی قرآن و احادیث سے  
کھلے الفاظوں ثابت ہے۔ مثلاً ریکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

۱۔ فاذ کرو نی اذ کرو کم (پ ۲۶۲ ع ۱۵۲)

”  
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔

2- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُورَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَعْمَى (۱۲۴۱ھ)

اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے لئے زندگی تنگ ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندرھا اٹھائیں گے۔

3- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (پ ۲۸۱۰۱۳ھ)

ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہے۔

4- فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَزْ كَرُوكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (پ ۲۰۰۹۲۰۰ھ)

پس اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

5- يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (۲۲-۳-۴۱)

اے ایمان والوں پس اللہ کا ذکر کرو بہت ذکر۔

6- وَادْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضُرِّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهُورِ مِنَ القَوْلِ بِالْغَدُوِ وَالاَصَالِ (پ ۲۰۵۱۲۹۰۵ھ)

اور اپنے رب کو یاد کر زاری اور ڈر میں بے آواز زبان سے صحیح و شام۔

7- وَسُبْحَانَ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمَنْ آنَى لِلَّيلَ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (پ ۱۷۱۶۱۳۰۷ھ)

اور اپنے رب کی تعریف اور پاکی بیان کرو سونج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کے وقت

اور دن کے کناروں پر۔

8۔ يذعنون ربهم بالغدوة والعشى (پ ۱۵۴۲ آ)

جو صحیح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

9۔ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا (پ ۱۵۴۲ آ)

اور اس کا کہانہ مانو جس کا دل ہم سے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔

10۔ واذکر ربك اذا نسيت (24-16-15)

اور اپنے رب کا ذکر کر جب تو بھول جائے۔

11۔ وقد أتيتك من لدننا ذكرا (پ ۹۹۱۳ آ)

اور تحقیق ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا۔

12۔ ويذكروا اسم الله في ايام معلومت (28-11-17)

اور اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔

13۔ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم (پ ۷۷۱۲ آ)

کہ اللہ کے نام کا ذکر کریں اس پر جوان کو دیا۔

14۔ واذكروا اسم ربک بكرة واصيلا (پ ۲۹۲۰ آ)

اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر وصحیح شام۔

15۔ يايهـا الـذـين آمـنـوا اذـا نـوـدـي للـصـلوـة مـن يـوـم الـجـمـعـة  
فـاسـعـوا إلـي ذـكـرـالـلـه (پ ۲۸۹۲ آ)

اے ایمان والوجب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔

16۔ واذكروا الله كثير العلكم تفلجون (پ ۲۸۱۰ آ)

اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم فلاج پاؤ۔

17۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبِّرٌكٌ أَنْزَلْنَاهُ (پ ۷۴ آ ۵۰)

اور یہ قرآن ذکر ہے برکت والا جس کو اتا راہم نے

18۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ (پ ۱۲ آ ۳۳)

اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر۔

19۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (پ ۲۸ آ ۱۲)

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

20۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ (پ ۱۲ آ ۱۹)

بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

حدیث نمبر 1۔ قَالَ اللَّهُ مَلِئَةُ السَّمَاوَاتِ فَضْلًا يَبْتَغُونَ  
مجالس الذکر

آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے گشٹ کرنے والی یہ ذکر الہی کی  
محلوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔

حدیث نمبر 2۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ  
رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے اور جو اللہ کا  
ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔

حضرات گرامی! ثابت ہوا کہ اس ختم کی دوسری جز بھی قرآن واحادیث سے کھلے القطبون ثابت

ہے۔

(3)

﴿قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے﴾  
 اس کے بعد ختم یعنی ایصال ثواب کے وقت سب سے پہلے عالم دین جو کام کرتا ہے وہ بھی قرآن  
 مجید کی تلاوت ہے جسے ہم قرآن و احادیث سے ثابت کرچکے ہیں لہذا اس کی تیسری جز بھی قرآن  
 و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

(4)

﴿و شریف پڑھنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے﴾

اس کے جب عالم دین قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر درود شریف پڑھا  
 جاتا ہے۔ کے جائز ہونے کا ثبوت بھی قرآن و احادیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید  
 میں فرماتا ہے ان الله و ملائکته يصلون على النبي يا يهـا الـذـيـن آمنـو  
 اـصـلـهـ حـنـيـهـ وـسـلـمـوـاـ تـسـلـيـمـاـ بـشـكـ اللـهـ تـعـالـیـ اـورـ اـسـ کـےـ فـرـشـتـتـےـ نـبـیـ صـلـاـتـ اللـهـ عـلـیـہـ پـرـ درـودـ وـسـلـامـ خـوبـ بـھـیـجـوـ (پـ ۵۶ عـ ۲۲)

صحیح ہے ایمان والوں کی نبی ﷺ پر درود و سلام خوب بھیجو۔

حدبیہ۔ خضوع ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود صحیح گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ  
 معاف فرمائے گا اور اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا۔

(مشکوہ درود کی فضیلت)

ثبت ہوا کہ اس ختم یعنی ایصال ثواب کی چوتھی جز بھی قرآن و احادیث سے کھلے  
 لفظوں ثابت ہے۔ بلکہ درود شریعہ کی فضیلت کے متعلق تو ہر فرقہ میں بیشمار کتابیں مصلحتی ہیں۔

(5)

## ﴿ دعا مانگنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے ﴾

اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اور اس کے جائز ہونے کا ثبوت بھی قرآن و احادیث سے ثابت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

## ﴿ قرآن پاک سے دعا کا ثبوت ﴾

(1) **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَغْفِلْنَا الْخَ**  
 ترجمہ۔ اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور  
 ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے ولیمیں ایمان والوں  
 کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ (پ 28 ع 4 آ 10)

(2) **رَبُّنَا أَغْفِلْنَا وَلَوْالَّدِي الْخ**  
 ترجمہ۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سب  
 مسلمانوں کو بھی بخش دینا جس دن حساب قائم ہو۔ (پ ۱۳ ع ۲۸ آ ۱۸)

(3) **وَقُلْ رَبِّنَا أَرْحَمْنَا الْخ**  
 ترجمہ۔ اور عرض کیجئے (یعنی دعا مانگیں) اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت فرم ا (یعنی میرے  
 والدین پر) جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ (پ 15 ع 3 آ 24)

(4) **الَّذِينَ يَحْمِلُونَ السَّرَّاجَ الْعَوْشَ الْخ**  
 اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا کر کھا ہے اور جو فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں

وہ سب فرشتے مسلمانوں کیلئے بخشش کی دعا میں مانگتے ہیں۔ (پ 24 ع 6 آ)

### (5) وَبِنَا أَقْنَافِي الدُّنْيَا الْخَ

اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرم اور ہمیں دوزخ کے عذات سے بچا۔ (201-9-2)

### (6) وَاتَّبَعْتُهُمْ ذَرِيْتَهُمُ الْخَ

اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے معافی مانگتے ہیں سن او بیشک اللہ تعالیٰ ہی بخشش والا مہربان ہے۔ (پ 27 ع 3 آ)

### (7) وَالْمَلَائِكَةَ يَسْبِحُونَ -

اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے معافی مانتے ہیں۔ (پ 25 ع 2 آ)

(8) اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جوابی ان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو (29-10-28)

## ﴿احادیث مبارکہ سے دعا کا ثبوت﴾

(1) حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جس میت پر مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر شفاعت یعنی دعا کریں تو ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی۔ (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 764)

(2) حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس جنازے میں چالیس مسلمان شریک ہوں تو ان کی شفاعت یعنی بخشش کی دعا مسلمان میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔

(مشکوٰۃ ج 1 ص 356) (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 764)

- (3) حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی تین صفائی جنازہ پڑھ دیں تو میت کیلئے (جنت) واجب ہو جاتی ہے۔ (ابوداؤدص 2022 ج 3)
- (4) حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس میت کیلئے سو 100 آدمی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 356)
- (5) حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجہ کو بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیرے لڑ کے کی تیرے لئے دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔  
(مشکوٰۃ ج 1 فصل 3 توبہ استغفار ص 515)
- (6) نماز کا انتظار کرنے والے کیلئے فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے۔ (مسلم ج 2 ص 296 باب نماز کا انتظار)
- (7) جو شخص سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کیلئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ (مشکوٰۃ باب فضائل قرآن - فصل 2 ص 467)
- (8) بیمار کی عیادت کرنے والے کیلئے ستر ہزار فرشتے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔  
(مشکوٰۃ باب عیادة المريض - جلد 1 ص 330)
- (9) حضرت عثمان سے روایت ہے کہ جب بھی حضورؐ کسی میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہر تے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے بخشش کی دعا کرو اور پھر اس کیلئے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔  
(مشکوٰۃ ج 1 ص 471 باب عذاب قبر)
- (10) ایک دفعہ حضورؐ چند قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا سلام ہو تم پر اے الی قبور۔

یغفرالله لنا ولکم۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 377 باب زیارت قبور)

ایک شخص نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تم کو قبر میں رکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہا کہ ایک شخص آگ کا کوڑا لے کر میری طرف دوڑا اور اگر میرے لئے دعا کرنیوں والے دعائے کرتے تو وہ مجھے مارہی دیتا۔ (شرح الصدور 261)

ایک شخص کو صحابہ کرام نے قبر میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے پھر کچھ دنوں بعد اسے اچھی حالت میں دیکھا تو اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں خود تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسی عذاب کا مستحق تھا جس کو تم دیکھ گئے تھے لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ فوت ہو گیا جسے لا کر میری قبر کے نزدیک دفن کر دیا گیا تو اس نے اللہ کی پارگاہ میں اپنے ارد گرد کی چالیس چالیس قبروں کی شفاعت کی جو قبول ہوئی تو ان میں میں بھی شامل تھا۔ (ایصال ثواب کی شرعی حدیث 52)

برادران اسلام یہاں تک یہ بات تو کھلے الفاظوں ثابت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کیلئے دعا مانگ سکتا ہے بلکہ فرشتے بھی مسلمانوں کیلئے دعا مانگتے رہتے ہیں جو کہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں بلکہ جنس بھی غیر ہیں اور خود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے متعلق قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے۔

### ويفعلون ما يومنرون

ترجمہ یعنی یہ فرشتے صرف وہ کام ہی کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

(50-12-14)

تو جناب ثابت ہوا کہ گنہگاروں کیلئے بخشش کی دعا مانگنے کے کام پر ان فرشتوں کو خود اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے حکم سے لگا رکھا ہے کیسا کرم اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے گنہگار بندوں پر واہ سبحان اللہ الہذا اس کی پانچویں جز بھی قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

## (6)

## ﴿احادیث مبارکہ سے ایصال ثواب کا ثبوت﴾

اور پھر دعا کے دوران ہی فوت شدہ کو ایصال کیا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔

-1 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قربانی کے دن دوسینگوں والے دنبے ذبح فرمائے اور ذبح کرتے وقت یوں فرمایا "اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ أَمَّتِهِ" یعنی اے اللہ تعالیٰ یہ قربانی تیری ہی عطا سے ہے اور تیرے ہی لئے ہے محمد ﷺ اور اسکی امت کی طرف سے ہے۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 31 قربانی کا باب۔ ابو داؤد ج 2 ص 30 ابن ماجہ)

-2 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ رنگ کا ایک دنبہ منگوایا اور اسے ذبح کرتے وقت یوں فرمایا "اللَّهُمَّ تَقْبِلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ أَلَّا مُحَمَّدٌ وَّ مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ" یعنی اے اللہ تعالیٰ اس کو محمد ﷺ اور اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرماء۔

(شرح صحیح مسلم ج 6 ص 145 قربانی کا باب مشکوٰۃ ج 1 ص 309 قربانی کا باب)

-3 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی (تمام) بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔

(شرح صحیح مسلم ج 3 ص 387 مشکوٰۃ باب الہدی ج 1 ص 582 ابو داؤد ج 1 ص 640)

-4 ایک دفعہ حضور ﷺ نے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی۔

(مشکوٰۃ ج 1 ص 311)

ایک دفعہ حضور ﷺ سے قربانی کے ثواب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بد لے ایک نیکی اور ہر صوف کے ایک ریشم کے بد لے ایک نیکی ہے اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گی اور اس کے علاوہ قربانی کے ہر خون کے قطرہ کے بدلہ میں پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے ستر (70) درجہ بڑھا کر میزان میں اس کا وزن کیا جائے گا۔

(شرح صحیح مسلم ج 6 ص 147 مشکوٰۃ ج 1 ص 313)

5۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نے قربانی کے دن حضرت عائشہ کیلئے ایک گائے ذبح فرمائی۔ (شرح صحیح مسلم ج 3 ص 567 مشکوٰۃ ج 1 ص 582 باب الہدی)

6۔ حضرت خدیجہ کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کیلئے حضور بکری ذبح فرماتے اور انکی سہیلیوں کو بھجیا کرتے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ اکثر دفعہ بکری ذبح فرماتے پھر اسکو خدیجہؓ کی سہیلیوں کیلئے بھجتے۔

(صحیح بخاری)

حضرات گرامی جہاں حضورؐ نے قربانی کا جانور ذبح فرماتے وقت اپنی امت کا نام لیا ہے وہاں نادار امت کو اس کا ثواب پہنچانا مقصود تھا۔

7۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ دونبوں کی قربانی کر رہے ہیں تو میں نے عرض کی کہ یہ کیا ہے تو آپؓ نے فرمایا کہ مجھے حضورؐ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں آپؓ کی طرف سے بھی قربانی کروں اور اپنی طرف سے بھی۔

(مشکوٰۃ باب قربانی، ابو داؤد ج 302)

8۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔

(بخاری حدیث نمبر 2572۔ شرح صحیح مسلم ج 4 ص 499 مشکوٰۃ ج 1 ص 423)

9۔ حضرت سعدؓ کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو اگر میں ان کیلئے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ پہنچے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا تو انہوں نے اپنا ایک پھلدار باغ اپنی والدہ کیلئے صدقہ کر دیا۔ (بخاری ج 1 ص 414 باب صدقہ کی فضیلت ابو داؤد نسائی)

10۔ حضرت سعدؓ نے اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کیلئے باغ کے علاوہ ایک کنوں بھی کھدا کر صدقہ کیا۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 414 باب صدقہ کی فضیلت ابو داؤد نسائی)

11۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کے لئے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا مجھے بھی اس کا اجر ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ (شرح صحیح مسلم ج 4 ص 499)

12۔ ایک دفعہ آپ ﷺ دو قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر آپ ﷺ نے ایک بزرگ شاخ منگوائی اور پھر اس کے دنکڑے کئے اور پھر ایک ملکڑا ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر ڈال دیا اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔

(بخاری حدیث نمبر 215۔ شرح صحیح مسلم ج 1 ص 464 مشکوٰۃ ج 1 ص 86 باب آداب الخلا)

13۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی قبر تک ہو گئی تو حضور ﷺ

نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی تو ہم نے بھی کافی دیر تک تسبیح (یعنی سبحان اللہ) پڑھی پھر آپ ﷺ نے تکبیر (یعنی اللہ اکبر) پڑھنی شروع کر دی تو ہم نے بھی پڑھنی شروع کر دی پھر ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی قبر تجھ ہو گئی تھی تو (ہمارے پڑھنے سے) اللہ تعالیٰ نے اس دنیک بندے پر فراغی فرمادی۔ (مشکوٰۃ باب عذاب القبر فصل 3 ج 1 ص 48)

14۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول ﷺ میرا والد فوت ہو گیا ہے اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا۔  
(شرح صحیح مسلم ج 4 ص 499)

15۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد عملوں کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عملوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی متاثر ہتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

(1) نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعا مانگتی رہے۔ (2) صدقہ جاریہ۔ (3) نفع دینے والا علم۔ (شرح صحیح مسلم ج 4 ص 511۔ مشکوٰۃ ج 1 ص 63 کتاب العلم)

16۔ ایک عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول ﷺ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے کے بغیر ہی فوت ہو گئی ہے تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے حج کر۔  
(بخاری شریف ثواب العباد ص 9)

17۔ ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے تھے تو کیا میں اس کی طرف سے روزے زکھوں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں رکھو اس نے کہا کہ میری والدہ نے حج بھی نہیں کیا کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو آپ ﷺ

نحو کا نتیجہ (شیعی محدثین) (137 ص 135)

۱۸۔ حضور ﷺ نے ایک عالمی سنت ایک عورت کا پیار کر کر  
خانہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا۔ جوں بیٹھتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اس کی شوہر  
جست ہے (مکملہ ۱۳۷ ص ۵۵۵ اب افعال حج)

۱۹۔ ایک عورت نے حضور ﷺ کے ساتھ اپنے بیٹھنے کے طرف سے  
چلی ایسا کہ نہیں کہ اس کا بھائی ایک عورت تھا (مکملہ ۱۳۷ ص ۵۵۵ اب افعال حج)

۲۰۔ ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میری بیوی نے حج کی تدریبی تھی مورودہ  
اویت ہوئی تھی اس کوئی کمزی کی اجازت نہ فرمائی۔

(مکملہ ۱۳۷ ص ۵۵۵ اب افعال حج)

۲۱۔ ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میرا باپ بوزھا ہو چکا ہے اور وہ حج اور عمرہ  
لئی لے رکھا اور اس کو دھوارنی پڑھنے ملتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے  
حج اور عمرہ کرو۔ (مکملہ ۱۳۷ ص ۵۵۸ اب افعال حج)

۲۲۔ ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر نذر کا  
روزہ لھا کیا اس کی طرف سے روزہ رکھوں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں رکھو۔

(شرح صحیح مسلم ج ۳ ص 137)

۲۳۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے  
روزے ۶وں اتواس کی طرف سے ہر دن کے بدله میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔  
(مکملہ ۱۳۷ ص 440)

۲۴۔ محمد بن شفیٰ ابراہیم بن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے

کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد عشاء میں دو یا چار رکعت ادا کرے اور کہے کہ اس نماز کا ثواب حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ (ابوداؤد ص 21236)

ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار جمعہ کی رات کو قبرستان گئے تو کیا دیکھا کہ ایک نور چک رہا ہے تو کہا کہ شاید ان کی بخشش ہو گئی ہے تو غیب سے آواز آئی کہ یہ مومنوں کا تخفہ ہے اپنے بھائیوں کیلئے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے تو آواز آئی کہ ایک شخص اس قبرستان میں آیا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر دو رکعت نماز ادا کی اور اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو بخش دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو دیا ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی ہر شب جمعہ کو ثواب پہنچانا شروع کر دیا تو ایک رات حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے مالک جتنے نور تم نے (میری امت کیلئے) ہدیہ کیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں تیری مغفرت بھی فرمادی ہے اور تیرنے لئے جنت میں ایک قصر مدیف بنادیا ہے۔

(شرح الصد و ص 288)

برادران اسلام ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے فوت شدہ کو ثواب پہنچانے کیلئے صدقہ اور خیرات حج اور روزے وغیرہ رکھنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت میں طلب کیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کھلے الفاظوں اجازت عطا فرمائی اور منع کسی کو بھی نہیں فرمایا بلکہ حدیث نمبر 11 اور حضرت مالک بن دینار کے واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنے والا خود بھی حق دار ہوتا ہے محروم نہیں رہتا اور حدیث نمبر 24 سے ثابت ہوا ہے کہ جس طرح مردوں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کی چھٹی جز بھی احادیث مبارک سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

== ایک شخص اپنی کوٹھری بھونے سے بھر رہا تھا وہاں لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک لڑکا

کوٹھری کے سوراخ سے گرا اور بھوسے میں دب گیا کسی کو خبر تک نہ ہوئی اور پھر کوٹھری کے سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی گئی تلاش بسیار کے باوجود لڑکانہ ملا تو اس کی والدہ نے مایوس ہو کر سمجھا کہ وہ کہیں فوت ہو چکا ہے روزانہ اس کو ایصال ثواب کیلئے ایک روٹی خیرات کرنے لگی یہاں تک کہ کوٹھری کے منہ سے آہستہ آہستہ بھوسا نکالتے رہے آخر کار بھوسا اختتام کو پہنچا اور وہی لڑکا روٹی ہاتھ میں لئے ہوئے باہر نکل آیا جب اسے اسکی والدہ کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے احوال پوچھنے پر بتایا کہ اگر جان جب رات ہوتی تو ایک شخص میرے پاس ایک روٹی لایا کرتا وہی میں کھایتا جب تک ہونہ جاتا میرے دل کو بہلانے کیلئے باشیں کرتا رہتا۔ (نزہت المجالس ج ۱۱ ص 664)

## 7

### اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثبوت قرآن و احادیث سے

اور یہ قرآن کی تلاوت کرنا درود پڑھنا کلمہ کا اور دکرنا استغفار کرنا ذکر اذکار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں وغیرہ مانگنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی عبادت کے متعلق یوں فرماتا ہے۔

(1) يَا يَهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ إِنَّمَا يُعْبُدُونَ رَبُّكُمْ

نَحْنُ كُوپیدا کیا ہے۔ (پارع ۲۱۳)

(2) حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من  
الله غیر۔ یعنی اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے  
(23-2-18)

(3) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ (16-14-20)

- (4) حضرت شعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا۔ یقوم اعبدو اللہ الحنفی میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی (36-16-20)
- (5) حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقوم اعبدو اللہ الحنفی میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے سواتھارا کوئی معبود نہیں ہے۔ (61-6-12)
- (6) حضرت ہود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقوم اعبدو اللہ الحنفی میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے سواتھارا کوئی معبود نہیں ہے۔ (50-5-12)
- (7) حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی (72-14-6)
- (8) اور یشک اللہ میرا اور تھمارا رب ہے پس عبادت کرو اس کی یہ راہ سیدھی ہے (36-5-16)
- (9) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس عبادت کرو میری (14-10-16)
- (10) پس اللہ ہی کی عبادت کرو (123-10-12)
- (11) اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو (99-6-14)
- اور حدیث میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو (مشکوٰۃ)  
لہذا اس کی ساتوں جز بھی قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔

سوال: جی احادیث میں تو صدقہ کے ثواب کا ذکر ہے اور جس طرح تم ایصال ثواب کرتے ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

جواب: جناب گھرا کیوں گئے ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ صدقہ والی احادیث کے بھی خلاف نہیں ہے بلکہ عین مطابق ہے قبل اس کے کہ ہم صدقہ کے متعلق کچھ تحریر کریں۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صدقہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی مثلاً اس صدقہ کا ثواب پہنچے گا اور اس کا نہیں بلکہ عام اجازت عطا فرمائی ہے کہ جس بھی صدقہ کا ثواب

پہنچاؤ گے پہنچے گا ہاں اگر پابندی لگائی ہے تو دلیل پیش کریں۔

**» ہر نیکی صدقہ ہے اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ۷**

عزیزم صدقہ کہتے ہیں نیکی بھلائی اور خیر کو حدیث میں ہے کل معروف صدقہ۔ (مشکوٰۃ)

دیکھی ہر نیکی صدقہ ہے اور ہر اچھا کام صدقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کر دینا صدقہ ہے کسی آدمی کے سوار ہونے میں مدد کر دینا صدقہ ہے یا اس کا سامان پکڑا دینا یا اس کا سامان نیچے رکھ دینا صدقہ ہے نیک بات کہنا صدقہ ہے نماز کے لئے جاتے وقت ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے کسی کی کھیتی یا درخت سے اگر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی مویشی کچھ کھالے تو یہ اس کے لئے صدقہ ہے اپنے گھروالوں پر خرچہ کرنا صدقہ ہے بلند آواز سے قرآن پڑھنا ظاہری صدقہ کی مانند ہے اور پست آواز میں قرآن پڑھنا پوشیدہ صدقہ کی مانند ہے عارضی طور پر کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دینا صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ہر تحریم صدقہ ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنا صدقہ ہے اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اپنی بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے بخولے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے کمزور نظر والی کی مدد کر دینا صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے اپنے بھائی کو پانی دے دینا صدقہ ہے کسی کو قرضہ دینا صدقہ ہے القصہ مختصر کس کس صدقہ کا نام لیا جائے۔ حضور ﷺ نے تو فیصلہ ہی فرمادیا ہے کل معروف صدقہ یعنی ہر نیکی صدقہ ہے۔ دیکھیں (مشکوٰۃ باب صدقہ کی فضیلت)

برادران اسلام قرآن و احادیث سے ثابت ہوا کہ ایک مسلمان اپنی ماں اور جسمانی عبادات یعنی نیک اعمال کا ثواب اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بخش سکتا ہے جس طرح کہ ایک شخص کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور اختیار سے جسے چاہے جتنا دے اور اسی طرح اپنے

نیک اعمال کے ثواب کا مسئلہ ہے کہ جسے چاہے بخش دے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی مال دیا تو اپنے پاس نہیں رہتا اور اگر زیادہ لوگوں کو دیا تو تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا ملے گا لیکن اگر ایصال ثواب کیا تو سب کو برابر یعنی پورا پورا ملے گا اور خود بھی محروم نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی یہ ایک شخص کے عمل سے دوسروں کے فائدے کا نظام خود اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے جس کی سینکڑوں مثالیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مزید تفصیل کیلئے دیکھیں۔ جلد ار

(ایصال ثواب کی شرعی حیثیت 15 سے 55 تک) یعنی ہمارا منہ ہبہ یہ ہے سمجھنا ہے کہ ایک درست سچے سنت و ہدایت کے دوستو یہ حضور اکرم ﷺ کے نام مبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے ہاں ہاں اگر ایسے نہ ہوتا یعنی فوت شدہ لوگوں کو قبروں میں دعا اور ایصال ثواب کا کچھ فائدہ نہ ہوتا تو نہ جانے گنہگاروں کا قبروں میں کیا حال ہوتا۔ ایک دفعہ جعفر خلدی کے والد نے ایک صالح کو خواب میں دیکھا کہ وہ شکایت کر رہا ہے کہ تم نے ہم کو اپنے ہدیے کیوں بھیجنा چھوڑ دیے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا مردے بھی زندوں کے ہدیوں کو پہچانتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر زندے نہ ہوتے تو مردے تباہ ہو جاتے۔ (شرح الصدور 288 اعانتۃ الاحباب ص 16)

ج جیوندے کی جان سار مویاندی سو جانے جو مردا ہو  
قبراں دے وچ ان ناں پانی اوتحے سامان لوڑی دا گھردا ہو  
اک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبردا ہو  
ایمان سلامت اسدا باہو جیڑا رب اگے سر دھردا ہو



## (8)

## ﴿کھانا کھلانے کا ثبوت قرآن و احادیث سے﴾

اور اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب حیثیت صاحب ذوق اور صاحب اختیار اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے کھانا بھی کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے یہ بھی جائز ہے کوئی گناہ یا حرام نہیں ہے جسکے متعلق خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے ۔

۱۔ يَا إِيَّاهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔

یعنی اے لوگو کھاؤ اس سے جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے ۔

(پ ۲۴۵ آ ۱۶۸)

۲۔ يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۔

اے ایماندارو کھاؤ اس پاکیزہ سے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے ۔ (پ ۲۴۵ آ ۱۷۲)

۳۔ وَ كُلُّوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔

اور کھاؤ اس سے جو کچھ دیا اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ ۔ (پ ۷۷ آ ۸۸)

۴۔ يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتَ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا  
تَعْتَدُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۔

اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ کو حرام نہ پھراؤ اور حدب سے نہ بڑھو بے شکح سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں ۔ (۷۷-۸۷)

حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں انسان کو خصوصاً ایمانداروں کو اس حلال اور پاکیزہ رزق سے کھلانے کا حکم دیا ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے تو برادران اسلام اس ختم کے موقع پر

اسی حلال اور پاکیزہ رزق سے ہی کھانا کھلایا جاتا ہے کوئی نجس اور حرام اشیاء سے نہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے جائز طریقے سے خود کھاتا ہے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت اپنے چند مسلمان بھائیوں کو بھی کھلادیتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہے یا گناہ تو جناب اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں دیکھیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ہر تر کلیچہ کے ساتھ بھلانی کرنے میں اجر یعنی ثواب ہے تو برادران اسلام اب اس کے علاوہ بھی ذرا اٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ کیا اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے کسی کو کچھ تھوڑا بہت کھلا پلا دینا کیا یہ اسلام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے یا بھلانی تو جواب حاضر ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھلانی ہے اور اب آئیے احادیث مبارکہ سے ہی دیکھئے کہ کسی جاندار کے ساتھ بھلانی کرنے میں کیا اجر ہے۔

۱۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر تر کلیچہ (یعنی ہر جاندار چیز) کے ساتھ بھلانی کرنے میں اجر یعنی ثواب ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ ج اص ۳۱۲ باب صدقہ کی فضیلت)

۲۔ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو مہر لگی شراب پلائے گا۔  
(مشکوٰۃ ج اص ۳۱۲ صدقہ کی فضیلت)

۳۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو سیر ہو کر کھلادو۔  
(یعنی پیٹ بھر کر کھلادو) (مرآت ج ۳ ص ۱۲۶)

۴۔ جو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے تو اسے سماڑھے تین ہزار سال مسافت کی مقدار دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ (حاکم۔ جنت کی کنجی ۶۲)

۵۔ حضرت ابو ہرثہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ بات سکھائیں کہ جس سے میں نفع اٹھاؤں تو آپؐ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف (دینے والی چیز) کو دور کر دو۔

(مرآت ج ۳ ص ۱۰۱)

۶۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کیلئے جاتا ہے تو پھر ہزار فرشتے اس پر سایہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ (نذہت الجالس ج ۱۱ ص ۳۱۸)

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک بدکار محورت ایک کتبے کے پاس سے گزری جو کنوں کے پاس کھڑا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا تو اس نے اپنا موزہ اتار کر اپنی اوڑھنی سے باندھ کر اس سے پانی نکال کر کتنے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا چوپاؤں اور مویشیوں کے ساتھ بھی بھلانی کرنے میں ثواب ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ ہر تر کلیجہ (یعنی ہر جاندار چیز) کے ساتھ بھلانی کرنے میں ثواب ہے۔ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۱۲)

۸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دودھ کیلئے جانور دے دے یا کسی کو چاندی بطور قرض دے یا کسی کو راستہ بتادے تو اس کیلئے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔

(ترمذی۔ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۱۵ باب صدقہ کی فضیلت)

۹۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کاروزہ افطار کرتا ہے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسکی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اسے بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے تو صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار نہیں کر سکتا تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس تراہی اجر عطا فرماتا ہے جو دودھ کی ایک گھونٹ یا پانی کی ایک گھونٹ یا ایک کھجور سے ہی کسی کاروزہ افٹھار کرتا ہے اور جو کسی روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلانے گا اور وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہ ہو گا۔

(معہج کوٰۃ ج ۱ ص ۲۲۷)

10۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرنا دیکھا جو راستہ سے اس درخت کی شاخ کا نئے کی وجہ سے بخش دیا گیا تھا جو راستہ میں لوگوں کو تکلیف دیتی تھی۔  
(مراٹ ج ۳ ص ۱۰۱)

11۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیت بوتا ہے تو پھر اس درخت یا کھیت سے کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایہ وغیرہ کچھ کھا جاتا ہے تو وہ اس کیلئے صدقہ ہے (یعنی اس کے لئے اس میں اجر ہے)۔ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۱۲ صدقہ کی فضیلت)

12۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد کرے (یعنی اس میں کوئی چیز کاشت کرے) تو پھر اس میں سے کوئی جانور وغیرہ کچھ کھا جائے تو وہ اس کیلئے صدقہ ہے (یعنی اس کیلئے اس میں اجر ہے)۔ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۱۵)

13۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کیلئے حوض میں پانی بھرتا ہوں تو کچھ دوسرے اونٹ بھی آکر پانی لپی جاتے ہیں تو کیا ان دوسرے اونٹوں کو پانی پلانے میں بھی کوئی اجر ہے تو فرمایا کہ ہر زندہ حیوان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے۔  
(احمد۔ جنت کی کنجی ص ۶۳)

14۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کنوں کھدا دیا تو جو چاندار چیز بھی اس سے پانی پیئے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کنوں کھدا دانے والے کو عطا فرمائے گا۔  
(بخاری۔ جنت کی کنجی ص ۶۲)

15۔ فرمایا کہ اپنے ڈول ہے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔  
(مراٹ ج ۳ ص ۱۰۲)

16۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم سوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کرو اور پھر اپنے

پڑو سیوں کا بھی خیال رکھو۔ (مشکوٰۃ حج اص ۲۲۰)

17۔ حضور نے فرمایا اے عورتو ایک ہماری دوسرا ہماری کیلئے حقیر نہ جانے اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی سہی۔ (مشکوٰۃ باب صدقہ کی فضیلت حج اص ۲۱۱)

﴿ بلکہ غیر تو غیر خاص اپنے گھروالوں سے بھلائی کرنے ۴۷﴾

﴿ میں بھی اجر ہے اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ۴۸﴾

۱۔ حدیث میں ہے افْقَ اذَا انْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفْقَةً عَلَى اهْلِهِ وَهُوَ تَحْتَسِبُهَا كَافِتَ لَهُ صَدَقَةٌ  
یعنی جس وقت کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ اسکے لئے صدقہ ہے۔ (مشکوٰۃ حج اص ۲۱۸ فضل صدقہ)

۲۔ وَإِنْ نَفَقْتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ مَا قَاتَكَ إِمْرَاتِكَ  
منْ مَالِكَ صَدَقَةٌ۔

اور تمہارا اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے بلکہ تمہارے مال سے جو کچھ تمہاری بیوی کھاتی ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ (شرح صحیح مسلم ح ۲۹۲ ص ۲۹۲)

۳۔ وَلَسْتَ تَنْفَقْ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا  
حَتَّى الْقُمَّةِ تَجْعَلُهَا فِي إِمْرَاتِكَ۔

اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا جوی (یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے) کیلئے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو تم کو اس کا اجر یعنی ثواب ملے گا حتیٰ کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔

(شرح صحیح مسلم ح ۲۹۲ ص ۱۹۲)

۳۔ حدیث میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے دو صدقہ کا ثواب ملتا ہے ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صدر جمی کا۔

(مشکوٰۃ ج اص ۳۲۰)

۴۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ میں اپنی اولاد یعنی اپنے بیٹوں پر جو کچھ خرچ کرتی ہوں کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا حالانکہ وہ تو میرے بیٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کر گی تجھ کو اس کا ثواب ملے گا۔

(مشکوٰۃ ج اص ۳۱۹ باب افضل صدقہ)

۵۔ حضور مقدماتے ہیں کہ مسلمان ثواب کی نیت سے اپنے گھروالوں پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو یہ اس کیلئے صدقہ ہے۔ (مراٹن ج ۳ ص ۱۲۷)

۶۔ حضرت میمونہ نے ایک لوٹدی آزادی کی تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم یہ لوٹدی اپنے ماموں کو دے دیتیں تو تم کو بہت زیادہ اجر ملتا۔ (مراٹن ج ۳ ص ۱۲۰)

۷۔ حضرت عمر فاروقؓ کو خیر میں بہت اچھی زمین ملی تو آپؐ نے اس کی پیداوار کو حضورؐ کے مشورے سے غیروں کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی صدقہ کر دیا۔

**فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي۔** (شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۵۲۱)

۸۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کسی شخص کے سوار ہونے میں اس کی مدد کر دینا صدقہ ہے اور اس کا سامان پکڑا دینا یا نیچے رکھ دینا صدقہ ہے اور راستہ سے پتھر کا نٹا بڑی وغیرہ کو ہٹا دینا صدقہ ہے اور کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دینا صدقہ ہے کسی شخص کو اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور اسے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے کسی کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے کمزور نظر والے شخص کی مدد کر دینا صدقہ ہے راستے میں جو چیز

اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے اسے دور کر دینا صدقہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلا دینا صدقہ ہے کسی کو کھانا کھلانا کھلانا صدقہ ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے بلکہ حدیث میں ہے کل معروف صدقہ۔ یعنی ہر نیکی صدقہ ہے۔ (مشکوٰۃ)

### (خبردار)

### (غور کریں غور کریں پھر غور کریں)

حضرات گرامی اب ان پیش کردہ احادیث مبارکہ کو ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اور پھر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام کیوں بنایا ہے تو جواب حاضر ہے کہ یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت اور پیار ہے بلکہ حضور قرما تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ماں کی محبت سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر محبت اور پیار ہے یعنی ماں اپنی اولاد پر جتنا رحم کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی کئی گناہ زیادہ مہربان یعنی رحم کرنے والا ہے (مشکوٰۃ ج ۱۹ ص ۵۲۱-۵۲۵ باب اللہ کی رحمت کی وسعت)

تو جناب اسی لئے تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی یعنی خیرخواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کے تحفون سے نواز رہا ہے یعنی اجر و ثواب کی خوشخبریاں سناتا ہے اور اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی حدیں مقرر کی ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی یعنی خیرخواہی کرے اور ظلم و زیادتی نہ کرے تاکہ اسے اجر و ثواب کے تحفون سے نوازا جائے تو جناب اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو اگر کوئی صاحب ماں اپنے حلال اور پاکیزہ ماں سے جائز طریقے سے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کو کھانا کیوں کھلایا ہے، مگر تم نے نہ ظلم کیا ہے

تو جناب اب ہماری ان پیش کردہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ذرا خود اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جن کے متعلق اجر و ثواب کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تو کیا کسی کو ختم وغیرہ کے موقع پر کھانا کھلانے پر سے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کھانا کیوں کھایا ہے یا اس سے شریعت کی کوئی حدوثیتی ہے ہرگز ہرگز نہیں یہ فضول یاروں کی فضول باتیں ہیں جو کہ حسد بغرض اور کینہ کی علامت ہے۔

## ﴿الطیف﴾

ایک سنبھوس کسی سخنی کو سخاوت کرتے دیکھ کر جلتا بتتا اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا کہا کچھ نہیں کہا کسی سے جھگڑا ہوا ہے کہا نہیں کہا کوئی چیز گم ہو گئی ہے کہا نہیں تو بیوی نے کہا کہ پھر کچھ ہوا بھی تو ہے کہا کہ میں ایک سخنی کو سخاوت کرتے دیکھ آیا ہوں اور میرا دل جل گیا ہے تو بیوی نے کہا کہ اس میں تیرا کیا نقصان ہے تو کیوں خواہ مخواہ حسد اور بخل کی آگ میں جل رہا ہے تو برا در ان اسلام یہی حال ان بیچارے ختم کے منکروں کا ہے کہ ختم دینے والا کوئی ختم دلانے والا کوئی اور حسد اور بخل کی آگ میں جلے والا کوئی واہ بجان اللہ۔

اور تجھب ہے کہ یہ حلال کو حرام کہنے والے بھی عجیب گلابی مسلمان ہیں کہ ختم دلاتے نہیں لیکن ختم کی چیز کو فوراً کھا لیتے ہیں یعنی کھانے کے وقت ماسی لپ جھپ اور اگر کوئی پوچھتے تو کہتے ہیں کہ اونہ بھی ختم کو نہ اس میں داخل ہو گیا ہے یہ ان کا کتنا خوبصورت جواب ہے حرام کو حلال کرنے کا وہ بسیان اللہ اور خاص و عام کو حلال ناپلانا خود حضور ﷺ سے کئی دفعہ ثابت ہے ایک دفعہ حضور ﷺ نے حضرت انس سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلا کر لے آؤ اور ان کے علاوہ جو بھی راستے میں ملے اسے بھی

لے آؤ تو حضرت انس کو جو بھی ملائے آئے اور وہ تقریباً تین سو آدمی تھے جن سے تمام گھر بھر گیا آپ ﷺ نے ان سب کو کھانا کھلایا جن میں تقریباً ہر طرح کا آدمی تھا (یعنی امیر اور غریب)۔

(مشکوٰۃ ج 31 ص 187 باب العجزات)

اور اس کے علاوہ باب العجزات میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں حضور ﷺ نے خاص و عام کو کھلایا اور پلائیا ہے۔ لہذا اس کی آٹھویں جز بھی قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

### ﴿ختم بخاری﴾

ایک معتبر وہابی لکھتا ہے کہ ”ختم قرآن شریف اور ختم بخاری شریف کے موقع پر کھانا کھلانا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ (رسالہ ”الاعتصام“ نومبر 1990ء)

☆ وہابیوں کے شیخ الكل نے لکھا ہے کہ ”قرآن خوانی کے لئے طلباء اور مولویوں کو گھر بلانا الگ الگ سپارے پڑھنا، ان کے لئے کھانا پکانا اور دعا کروانا، آئیہ کریمہ پڑھوانا وغیرہ نیز گھر والوں کا ان کو معاوضہ (روپے) دینا یہ خدمت ہے بدعت نہیں نہ کوئی حرج ہے۔“ (فتاویٰ برکاتیہ ص 192 از مفتی ابوالبرکات گوجرانوالہ)

☆ اموات کے لئے فاتحہ اور عرس اور نذر و نیاز اور رکھانا کھلانے (ختم شریف) میں بغیر تعین یوم کے کوئی قباحت نہیں۔“ (صراط مستقیم اسماعیل و سید احمد (خزینہ مغفرت ص 20)

### ﴿دیوبند کے امام﴾

فرماتے ہیں۔ ”یہاں پر ختم شریف جو اجگان ہوتا ہے اس میں اہل خانقاہ طلباء کرام و ذاکرین عظام کی جماعت شامل ہوتی ہے“ (الافتراضات الیومیہ ص 1934 از مولوی اشرف علی تھانوی)

☆ ختم شریف کے بعد پانی چائے پھل وغیرہ تقسیم کرنا جائز ہے۔“

(شام امدادیہ از حاجی امداد اللہ پیشوائے دیوبند)

☆ مسجد قباء سنگلہ والی اہل حدیث میں پروگرام تقسیم انعامات و ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کی گئی۔ (خزینہ مغفرت 25)

☆ جس چیز پر ختم پڑھا جائے اسے کھانا جائز ہے آسانی کے لئے تاریخ مقرر کرنا قل و چہنم کی جائز ہے۔ (مفتي عبدالرحمن جامعہ اشرفیہ دیوبندیہ لاہور بحوالہ روزنامہ جنگ میگزین: خزینہ مغفرت 24) اور اس کے علاوہ خود مخالفین بھی اکثر دفعہ اپنے جلوسوں وغیرہ میں کھانا یا شرینی مغفرت 24) اور اس کے علاوہ خود مخالفین بھی اکثر دفعہ اپنے جلوسوں وغیرہ میں کھانا یا شرینی دغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں جسے امیر اور غریب سب ہی کھاتے ہیں کیا یہ حرام کھاتے ہیں اور خود ہمارے گاؤں مصطفیٰ آباد میں دیوبندی حضرات نے ایک جلسے کے بعد عام لوگوں کو کھانا کھلایا۔

دھوکے اور چالاکی سے حقیقت کیسے بدلو گے

افسانہ آخر افسانہ ہے حقیقت پھر حقیقت ہے

برادران اسلام ثابت ہوا کہ جس طرح اسلام کے پانچ بناؤں کی علیحدہ علیحدہ جزئیات قرآن و احادیث سے ثابت ہیں تو اسی طرح اس ختم یعنی الیصال ثواب کی علیحدہ علیحدہ جزئیات بھی قرآن و احادیث سے کھلے لفظوں ثابت ہیں۔ ہاں اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئیں تو یہ اس کا اپنا قصور ہے قرآن و احادیث کا ہرگز نہیں ہے۔ گرنہ بیند شپرہ چشم چشم آفتاب راچہ گناہ یعنی اگر دن میں چپگاڑ کی آنکھ نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے۔

آنکھیں اگر ہیں اندھی تو پھر دن بھی رات ہے

اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا

برادران اسلام اب تو یہ بات کھلے لفظوں ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا یہ ثواب پہنچانا قرآن و

احادیث کے خلاف ہرگز نہیں ہے بلکہ عین مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ الْحُكْمَ إِنَّ اللَّهَ أَوْرَدَهُ إِلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالْحُكْمِ“ کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا۔

(پ 59 آ 59) تو جناب ہم نے اس مسئلے کا جواز قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت کر دیا ہے۔ یعنی اسی ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔

### ﴿ ختم یعنی ایصال ثواب پر چند اعترافات کے جوابات ﴾

سوال نمبر 1: یہ جو تم نے ختم کے جواز پر قرآن و احادیث سے دلائل پیش کئے ہیں ان میں ختم کا ثبوت کہاں ہے کیونکہ یہ جو تم نے پہلی دلیل پیش کی ہے اس میں قرآن پڑھنے کا ثبوت ہے ختم کا نہیں اور دوسری دلیل میں اللہ کا ذکر کرنے کا ثبوت ہے ختم کا نہیں اور تیسرا میں درود شریف پڑھنے کا ثبوت ہے ختم کا نہیں اور چوتھی میں دعاء مانگنے کا ہے ختم کا نہیں اور پانچویں میں ایصال ثواب کا ہے ختم کا نہیں وغیرہ وغیرہ۔

جواب نمبر 1۔ جناب اس سوال کے جواب میں صرف دو چیزوں سمجھنے کے قابل ہیں اگر یہ سمجھ میں آگئیں تو مسئلہ حل ہے۔

**1** ختم کس چیز کا نام ہے یعنی ختم کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں تو جناب اس کے متعلق فہرست میں مضمون نمبر 3 دیکھیں یعنی ایصال ثواب کا نام ختم کیسے پڑا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نام ہے ایصال ثواب کا اور یہ ایصال ثواب اگرچہ ایک ہی عمل سے کیا جائے یا زیادہ سے مثلاً دیکھیں کہ اگر کسی نے سینکڑوں روپے کی چیزوں میں کہاں پر میں یوں قرآن مجید بھی پڑھ کر دعاء مانگ دی تو اسے بھی ختم ہی کہتے ہیں اور اگر کسی نے صرف دس روپے کی شرینی میں کہاں پر

## ختم کا ثبوت

فاتحہ پڑھ کر کلمہ کا ثواب درود کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب نوافل کا ثواب حج اور روزہ کا ثواب صدقہ خیرات کا ثواب اور تلاوت قرآن کا ثواب بھی بخش دیا تو اسے بھی ختم ہی کہتے ہیں اور اگر کسی نے صرف دوروپے کی ٹافیاں ہی منگا کر اس پر صرف ایک مرتبہ ہی قل شریف پڑھ کر دعا مانگ دی تو اسے بھی ختم ہی کہتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ ختم نام ہے ایصال ثواب کا اور وہ اگر چہ ایک ہی نیک عمل سے ہو یا زیادہ سے۔

**②** اور اس کے جائز ہونے کے متعلق قرآن و احادیث میں کیا دلائل ہیں۔ برادران اسلام سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف ان ہی چیزوں کا ثبوت پیش کرنا ہے جو ہم ختم میں کرتے ہیں اگرچہ وہ کم ہوں یا زیادہ اور اب آئیے دیکھئے کہ ہم ختم میں کیا کرتے ہیں۔

۱۔ جناب ہم سب سے پہلے قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ایک دیکھیں۔

۲۔ اور اس کے مطابق ہلا وہ کلمہ شریف درود شریف استغفار اور ذکر اذکار وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۲ دیکھیں۔

۳۔ اور اس کے بعد جب کوئی عالم دین آتا ہے تو یہ بھی قرآن مجید ہی پڑھتا ہے جس کے جائز ہونے کے متعلق دلیل پیش کی جا چکی ہے۔

۴۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر چاروں دیکھیں۔

۵۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائے بخشش کی جاتی ہے اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۵ دیکھیں۔

۶۔ اور اس کے بعد فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر 6 دیکھیں۔

۷۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کلمہ شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا استغفار پڑھنا ذکر اذکار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں وغیرہ مانگنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر 7 دیکھیں۔

۸۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب حیثیت اور صاحب اختیار اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے کچھ کھانا وغیرہ بھی کھلادے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر 8 دیکھیں۔

(جواب نمبر ۲) جناب ختم نام ہے چند جائز چیزوں کے ساتھ ایصال ثواب کرنے کا یعنی چند جائز چیزوں کے مجموعے کا نام ختم ہے جس طرح نماز نام ہے چند جائز چیزوں کے مجموعے کا مثلاً دیکھیں کہ صرف قیام کا نام نماز نہیں نہ صرف تکبیر تحریک کا نام نماز ہے نہ صرف قراءۃ کا نام نماز ہے نہ صرف رکوع کا نام نماز ہے نہ صرف سجدہ کا نام نماز ہے نہ صرف التحیات بیٹھنے کا نام نماز ہے نہ صرف تہجد پڑھنے کا نام نماز ہے نہ صرف تسبیحات کا نام نماز ہے نہ صرف تکبیریں پڑھنے کا نام نماز ہے نہ صرف سلام پھیرنے کا نام نماز ہے بلکہ نماز نام ہے ان تمام چیزوں کے مجموعے کا جو نماز میں ادا کی جاتی ہیں اور اسی طرح جو بھی چند جائز چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جسے حاجی لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی طرح ختم بھی چند جائز چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو ہم ختم میں کرتے ہیں یعنی صرف قرآن پڑھنے کا نام ختم نہیں نہ صرف دعا مانگنے کا نام ختم ہے نہ صرف کلمہ درود ذکر اذکار کا نام ختم ہے نہ صرف شرینی تقسیم کرنیکا نام ختم ہے نہ صرف صدقہ و خیرات کرنیکا نام ختم ہے بلکہ ختم نام ہے ان تمام چیزوں کے مجموعے کا جن پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے اور ان کے

جاائز ہونے کا ثبوت ہم قرآن و احادیث سے پیش کر جکے ہیں کیونکہ ہم نے صرف اسی چیز کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن و احادیث سے پیش کرنا ہے جو ہم ختم میں کرتے ہیں اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چنی چیزیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں اگر ان میں سے کچھ کم یا زیادہ بھی ہو جائیں تو بھی اسے ختم ہی کہتے ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے لہذا تمہارا یہ سوال ہی جاہلانہ ہے کہ جی پہلی دلیل قرآن پڑھنے کی ہے اور دوسری ذکر کی اور تیسرا دور دشیری کی اور چوتھی دعا کی اور پانچویں ایصال ثواب کی وغیرہ وغیرہ۔

سوال نمبر 2:- کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم دلایا تھا۔

جواب: جناب ہم پہلے بیان کر جکے ہیں کہ ختم الیہال ثواب کا دوسرا نام ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز صرف دوسرا نام پڑ جانے کی وجہ سے ہی نہ تو حرام ہو سکتی ہے اور نہ ہی جائز مثلاً قرآن کو قرآن کہہ دیا جائے تو تب بھی جائز ہے اور اگر اسے اللہ کا کلام یا اللہ کی کتاب یا آسمانی کتاب کہہ دیا جائے تو تب بھی جائز ہے گناہ یا حرام نہیں ہے اسی طرح اگر کھانے کو طعام کہا جائے تو حلال ہی رہتا ہے حرام نہیں ہوتا اور اسی طرح سود کو منافع کہا جائے تو یہ ناجائز ہی رہتا ہے جائز نہیں ہو جاتا وغیرہ وغیرہ یعنی دوسرا نام رکھنے سے اس کی اصل نہیں بدلتی۔ یعنی حلال چیز حلال ہی رہتی ہے اور حرام چیز حرام ہذا ہمارے اس فعل کا اصل نام تو ایصال ثواب ہی ہے اور دوسرا نام ختم یا فاتحہ وغیرہ اور ایصال ثواب کا جائز ہونا ہم احادیث مبارکہ سے ثابت کر جکے ہیں ہذا ہمارے اس عمل کو ایصال ثواب کے نام سے پکارا جائے تو تب بھی درست ہے اور اگر ختم کے نام سے پکارا جائے تو تب بھی درست ہے اور ہم نے احادیث مبارکہ سے ثواب پہنچانے کے ثبوت میں پہلی چھ احادیث مبارکہ میں خود حضور ﷺ کا ایصال ثواب کرنا ہی ثابت کیا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

اور ہم ایصال ثواب کو ہی ختم کہتے ہیں

سوال نمبر 3: — یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے لیکن تمہاری طرح نہیں کیونکہ تمہارا طریقہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔

جواب 1: — جناب حضور ﷺ نے ایصال ثواب کیلئے کوئی طریقہ یا چیز مقرر ہی نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی نیک عمل پر کوئی پابندی لگائی ہے مثلاً تلاوت قرآن مجید یا حج یا روزے یا انواع کا ثواب ہی پہنچے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں ہاں اگر کوئی طریقہ یا چیز مقرر فرمائی ہے تو دلیل پیش کریں لہذا ثابت ہوا کہ جس بھی نیک عمل اور طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے گا ہو جائے گا۔

جواب 2: — جناب جو عمل بھی قرآن و احادیث سے جائز ثابت ہو جائے تو وہ ہرگز خلاف سنت نہیں رہتا بلکہ وہ جائز ہی ہوتا ہے اور اس کا ثبوت ہم قرآن و احادیث سے پیش کر چکے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے۔

جواب 3: — رہا مسئلہ طریقے کا تو جناب ہمارا یہ طریقہ بھی قرآن و احادیث کے خلاف ہرگز نہیں ہے بلکہ عین مطابق ہے کیونکہ ہم فوت شدہ کو ثواب پہنچانے کیلئے سب سے پہلے ذکرو اذکار کرتے ہیں مثلاً کلمہ شریف، درود شریف، سورتیں، سپارے اور قرآن مجید وغیرہ پڑھتے ہیں اور دعاء مانگی جاتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا تبرک وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہم قرآن و احادیث سے ثابت کر چکے ہیں کہ جائز ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ بھی قرآن و احادیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین مطابق ہے۔

سوال نمبر 4: جی کھانے پر قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔

جواب 1: جناب ہمارے نزدیک ایصال ثواب کے لئے کھانے پر قرآن مجید پڑھنا نہ تو شرط ہے نہ لازمی یعنی پڑھ لو تو تب بھی جائز ہے اور اگر نہ پڑھو تو تب بھی جائز ہے ہاں جو شخص ہمارے

اس طریقے پر اعتراض کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ جس سے کھلنقوں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عمل ناجائز ہے۔

**جواب 2:** جناب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قرآن مجید میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کیلئے شفاء اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کیلئے زیادہ نہیں کرتا مگر نقصان (پ 15، ع 9، آ 82) ثابت ہوا کہ قرآن مجید مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے نقصان اور سورہ لقمان میں ہے کہ اس قرآن کی آیتیں نیکوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہیں

(3-10-21)

تو اب اگر کوئی اس قرآن کی چند آیات حصول برکت کیلئے کھانے پر پڑھ دے تو جو شخص اس سے اپنے دل میں شہذک محسوس کرے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے اور جو اس سے اپنے دل میں جلن کر دھن بے چینی بے قراری اور نفرت محسوس کرتا ہے تو وہ خود غور کرے کہ کہیں وہ بھی ان خسارہ پانے والوں میں سے تو نہیں ہے کیونکہ ایمان والے تو اسے با برکت سمجھ کر خوشی سے کھاتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے لیکن شیطان اگر ایسا کھانا کھا بھی لے تو اسے پچتا نہیں ہے اور نہ ہی ہضم ہوتا ہے بلکہ قے کر دیتا ہے اب یہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ وہ کون ہے کہیں وہ بھی تو انہیں شیاطین میں سے تو نہیں ہے جن کو ایسا کھانا ہضم نہیں ہوتا اور عجیب بات ہے کہ شیطان پر تو صرف ایک آیت یعنی بسم اللہ پڑھنے سے ہی کھانا حرام ہو جاتا ہے اور ان پر اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ بسم اللہ کے ساتھ کچھ اور آیات نہ پڑھی جائیں یعنی شیطان تو صرف ایک آیت پڑھنے سے ہی بھاگ جاتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ پڑھیں تو پھر بھاگتے ہیں۔

**جواب 3:** برادران اسلام و یہی بھی ذرا مٹھنڈے دل سے غور کریں کہ وہ کس چیز کا مسلمان ہے جو کھانے پر صرف برکت یا ثواب کے لئے قرآن پاک پڑھنے سے ہی جل بھن جاتا ہے حالانکہ

تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں برکت کے لئے کوئی کلام یا درود پڑھا جاتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ ترجیح قرآن پاک کو دی جاتی ہے اور اس کے مطابق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرات حسین کریمین کے جس کھانے کی نیاز پر فاتحہ شریف قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔

(خطبات محرم ص 443 فتاویٰ عزیزیہج 1 ص 78)

ارے تم اپنے اجتماعات اور خوشی وغیرہ کے موقع پر ویسے ہی کھانا کھائیتے ہو اور ہم پہلے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو یہ حرام کس چیز نے کر دیا ہے کیا قرآن کی تلاوت نے ارے جاؤ جا کر کہیں عقل کا علاج کراؤ۔

### ﴿ عقل ہوئی تو خدا سے نہ لٹراتی لیتے ﴾

واہ ارے واہ جناب حیف یعنی افسوس ہے تمہاری ایسی عقل اور مسلمانی پر کہ اگر سکھوں یا ہندوؤں کے علاقے یا گاؤں میں اذان پڑھ دی جائے تو ان کے گھر باٹنگے جاتے ہیں ان کے چونترے باٹنگے جاتے ہیں ان کے برتن باٹنگے جاتے ہیں ان کے درود یا وار باٹنگے جاتے ہیں بلکہ ان کی ہر چیز باٹنگی جاتی ہے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے اسی طرح افسوس ہے ان بیچاروں کی مسلمانی پر بھی کہ جن کی قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ہر چیز قرآنی جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے مثلاً اچھے سے اچھے اور لذیز سے لذیز کھانے قرآنے جاتے ہیں پھل قرآنے جاتے ہیں سیب قرآنے جاتے ہیں آم قرآنے جاتے ہیں انگور قرآنے جاتے ہیں انار قرآنے جاتے ہیں کیلے قرآنے جاتے ہیں یعنی ہزاروں قسم کی اچھی سے اچھی اور لذیز سے لذیز نعمتیں قرآنی جاتی ہیں اور حرام ہو جاتی ہیں حلال رہتی ہی نہیں اور نہ انکا کچھ بچتا ہے۔ کیونکہ ہندوؤں سکھوں کی ہر چیز اذان پڑھنے سے اذان یعنی باٹنگی جاتی ہے اور ان بیچاروں کی ہر چیز قرآن پڑھنے سے قرآنی جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے

ارے خدا کے بندوں کی توجہ تو عقل سے بھی کام لیا کرو کیا اس طرح قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے کیون تم نے سیدھی سادھی اور بھولی بھالی قوم کو اُگو بنار کھا ہے۔

**جواب 4:** حدیث نبی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عمر بن ابی مسلم کو کھانا کھاتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو۔ (شرح صحیح مسلم ج 6 ص 272)

عزیزم بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے (19-17-30) جناب جب کھانے پر قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنا جائز ہے تو دوسرا اس نے ناجائز کر دیا ہے قرآن مجید میں ہے ”فَكُلُوا مَا ذُكِرَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (118-1-8) یعنی کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تھوڑا آگے ہے اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (118-1-8) اور کچھ آگے یوں ہے اور اس سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

(121-1-8) بلکہ حضور ﷺ نے خود بھی کھانا سامنے رکھ کر اس پر اللہ کا ذکر بھی کیا ہے اور دعائیں بھی مانگیں ہیں۔ (مشکوٰۃ باب الْمُجَزَّات)

**سوال 5:** - حدیث میں تو ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور تم آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔

**جواب:** جناب اگر بسم اللہ کے علاوہ باقی قرآن پاک کھانے پر پڑھنا حرام یا گناہ منع یانا جائز ہے تو دلیل پیش کرو ورنہ اپنا علم اپنے گھر رکھیں۔

**سوال 6:** جی کھانے پر قرآن پاک اس لئے نہیں پڑھنا چاہئے کہ بعد میں پاؤں تلے آتا ہے اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔

**جواب 1:** جناب جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہو تو آخر میں جو کھانا نج جاتا ہے تو تم اس کو باہر گلی میں کتوں کے آگے کیوں پھینک دیتے ہو جو اس پر پاؤں رکھ کر کھاتے

ہیں کیا اس وقت اس کی بے ادبی نہیں ہوتی جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب۔

جواب 2: جناب مجبوری یا لامعینی اور بے خبری سے نیچے گر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔

سوال 7:- پھلوں پر قرآن پڑھا ہوتا ہے تو اس کے چھلکے کیوں پھینک دیتے ہو وہ بھی کھالیا کرو؟  
جواب: جناب جب قربانی دی جاتی ہے تو اس کی ہر چیز کا ثواب ملتا ہے تو پھر تم گوبر، بال، خون سینگ اور انتریاں وغیرہ باہر کیوں پھینک دیتے ہو وہ بھی کھا جایا کرو کیونکہ یہ بھی تو سب قربانی میں شامل ہیں۔

سوال 8:- قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم (گزپ 2-ع 5) یعنی تم پر مردار خون خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے اور تمہاری یہ بیرونی فقیروں کی نامزدہ چیزوں سب غیر اللہ کے حکم میں داخل ہیں الہذا حرام ہیں۔

جواب نمبر 1: جناب یہ غیر اللہ کا حکم صرف ذبح کے وقت کا ہے یعنی اگر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو حرام ہے، ورنہ نہیں باں اگر حرام ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز دکھاؤ کہ جس پر غیر اللہ کا نام نہیں آتا کیا یہ سب حرام ہیں، باں اگر حرام ہیں تو پھر تم کو اپنا تمام مال و دولت اور جانور وغیرہ سب اہلسنت کے حوالے کر دینا چاہئے کیونکہ یہ سب غیر اللہ کے حکم میں داخل ہیں اور ان پر اللہ کے علاوہ تمہارا نام بھی آتا ہے اور تم بھی غیر اللہ ہو الہذا یہ تمہارے لئے حرام ہیں۔

..... (و ما اہل) .....

هر بات و ما اہل هر کار و ما اہل  
مسئلہ کوئی بھی ان سے پوچھو بس هر بات و ما اہل  
نساز نجد کو جب ضرب حق سے چھیڑو

گلے کو پھاڑے گا اور چینے گا ہر تار و ما اصل  
ٹوپی جوتی تہبند عینک اور قمیص  
آ رہی ہے سب سے ہی آواز و ما اصل  
حق کیسے نظر آئے ان کو قرآن سے  
کہ آچکی ہے آگے ان کے بس دیوار و ما اصل  
دنیا کی ہیں نعمتیں سب انہیں پر حرام  
کہ اس باغِ دنیا میں ہر پھول و ہر خار و ما اصل  
گوشت ، پلاو ، زردہ اور کیلے ، آم ، انگور ، انار  
یہ ان کو کیسے کھائیں سامنے دیتا ہے دکھائی و ما اصل  
بچپال سخنی سرکار غوث پاک اور ولیوں کے نام کا لنگر  
یہ کیسے ہضم ہو جائے ان کو ہے جب تک آگے دیوار و ما اصل

(۲) = جناب قرآن میں ہے۔ (ما جعل اللہ (7-4-103) یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیرہ سائبہ  
وصیلہ اور حامی کو حرام نہیں فرمایا حالانکہ یہ وہ جانور ہیں جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اور  
بتوں کے نام پر ہی مشہور ہوتے تھے جمعی اگر کسی کو کوئی ضرورت یا تکلیف ہوتی یا کوئی بیکار ہو جاتا تو وہ  
کہتا کہ اگر میری یہ مشکل آسان ہو گئی تو میں اپنا فلاں اوٹ یا گائے کبری فلاں بت کے نام پر  
چھوڑ دوں گا تو یہ اسی طرح کرتے اور یہ جانور ان کی فصلیں کھاتے رہتے اور وہ ان کو نہ مارتے اور نہ  
ان کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ان کا دودھ پیتے تھے اور نہ اسی ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے تو اللہ  
تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حرام نہیں کیا بلکہ تم میں سے جو کوئی  
ان کو کھانا چاہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر کے کھا جائے کیوں جناب اب دیکھئے کہ کہاں بتوں

کے نامزدہ جانور حلال ہیں اور کہاں نبیوں ولیوں کی نامزدہ چیزوں پر شرک و کفر کے لگائے جا رہے ہیں۔

نہ شرم رسول نہ خوف خدا  
الہی دے ان کو بھی کچھ تو حیا

سوال 9:- جی تم نے یہ جو حلال اور پاکیزہ کھانے کے متعلق قرآن و احادیث سے دلائل پیش کئے ہیں ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ کھانا ہی کھانا چاہئے لیکن ہم کہتے ہیں کہ فوت شدہ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہئے یہ منع ہے کیونکہ شرع نے صیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں یعنی سوگ کے دنوں میں نہیں۔

جواب 1: جناب سوگ کا حکم تین دن تک ہے نہ کہ تمام زندگی اور یہ کھانا تو عام طور پر بیسویں یا چالیسویں یا سال بعد کھلایا جاتا ہے تو کیا اتنے دنوں تک سوگ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں ہاں اگر کہیں سوگ کے دنوں میں ایسا کیا جاتا ہے تو انہیں ان دنوں میں ایمانہ کرنا چاہئے (جیسا کہ بعض تیجہ پر ہی چالیسویں وغیرہ کا کھانا کھلادیتے ہیں یہ نہ چاہئے جیسا کہ حضرت علامہ فقیرہ اعظم احمد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے گھروالے اگر تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے نہ کہ غمی میں) (بہار شریعت حصہ 4 ص 135)۔

جواب 2: فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ عرف عام پر نظر شاہد کہ چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصد تو میت کو تواب پہنچانا ہوتا ہے اور وہ اسی غرض سے یہ فعل کرتے ہیں الہذا سے فاتحہ کا کھانا چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں کہ وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ذوبنے والے کی طرح فریداری کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت دعا کیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ مرنے سے ایک سال تک خصوصاً

چالیس دن تک اس طرح مدد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس نیت سے جو کھانا اپکایا جائے وہ مستحب ہے (یعنی اچھا ہے)۔ فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 668

**سوال 10:** — حدیث میں ہے طعام المیت یہ میت القلب  
یعنی طعام میت دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

جواب: اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ طعام المیت یہ میت القلب حدیث نہیں ہے بلکہ یہ کسی تجربہ کار کا قول ہے اور یہ صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو کہ اس کی توقع رکھتے ہیں۔ (فتاویٰ عزیزی ج 2 ص 106 ایصال ثواب کا شرعی طریقہ ص 122)

**سوال 11:** — جی درست ہے کہ کھانا کھلانا تو چاہئے لیکن فقرا ماسکین محتاجوں اور غریبوں کو اور تم تو امیروں کو بھی کھلاتے ہو۔

جواب 1: اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر ملیدہ (یعنی طوطہ) یا کھیر وغیرہ پر کسی بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کیلئے فاتحہ پڑھ کر کسی کو کھلادیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کی نیاز کا کھانا اغذیاء کو جائز نہیں ہے اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کا کھانا ہو تو یہ امیروں کو بھی کھانا جائز ہے۔

(خطبات محرم ص 463 زبدۃ النصاع۔ گیارہویں شریف ص 152 ایصال ثواب کا شرعی طریقہ ص 166)

جواب 2: فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں کہ وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریادرس کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت صدقابت دعا میں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ مرنے سے ایک سال تک خصوصاً چالیس دن تک اس طرح مدد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اس میں شک نہیں

کہ اس نیت سے جو کھانا پکایا جائے مستحق ہے اور عندِ تحقیق صرف فقراء پر ہی تصدق میں ثواب نہیں بلکہ ان غنیاء پر بھی ثواب ہے جیسا کہ حضور مُحَمَّد نبی کے حکم میں ثواب ہے فی کل ذات کبد رطبة اجر۔ یعنی جو زندہ کو کھانا کھائے گا یا پانی پلائے گا تو وہ ثواب پائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 668)

غُنی پر صدقہ کرنا ایک طرح کی قربت ہے جس کا درجہ فقیر پر تصدق کی قربت سے کم ہے لیکن صدقہ سے رجوع نہیں ہو سکتا اگرچہ غُنی پر ہواں لئے کہ اس کا مقصود ثواب ہوتا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج 9)

ہدایہ وغیرہ میں ہے مجمع بحار الانوار میں توسط شرح سنن ابی داؤد سے ہے کہ صدقہ وہ ہے جو تم فقراء پر تصدق کرو یعنی صدقہ کی اکثر قسمیں فقراء ہی پر ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک غُنی پر بھی صدقہ جائز ہے بلا خلاف اس پر کہ وہ مستحق ثواب ہے (فتاویٰ رضویہ ج 9) محدث اپنے قریبوں عزیزوں کے ساتھ موسات یعنی غم خواری بھی صلیٰ رحم و موجب ثواب نہ ہے اگرچہ وہ ان غنیاء ہوں۔

(فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 668 تا 672)

جواب 3: جناب ایک صدقہ ہے واجب ہے زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ اور ایک ہے رد بلا یعنی سر سے وار کر دینا یہ تو غریبوں کیلئے ہی ہے اور ایک ہے نافلہ یہ ہر آدمی کھا سکتا ہے اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے متعلق دیکھیں حضرت سعدؓ کا کنوں اور باغ کا صدقہ کرنا اور حضرت عثمانؓ کا یہودی سے کنوں لے کر سب امیر اور غریب مسلمانوں کیلئے وقف کرنا اور ایک صحابیؓ کے فوت ہونے پر اسکی بیوی کا حضور کو دعوت دینا وغیرہ اور اس کے علاوہ ہماری بیش کردہ صدقہ والی احادیث مبارکہ دیکھیں کہ جن میں اکثر ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے بلکہ غیر تو غیر خاص اپنے قربی رشتہ داروں پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا

ہے جیسا کہ ہم نے کھانے کے باب میں اکثر احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے۔

**سوال 12: — جی غیر اللہ کے تقرب کی نیت کی وجہ سے حرام؟**

**جواب:** جناب ہم اپنے بزرگوں کے تقرب کے لئے نہیں بلکہ ان کو ایصال ثواب کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

**سوال 13: ایصال ثواب کے لئے وقت مقرر کرنا جائز ہے۔**

**جواب:** جناب تمہارا یہ اعتراض بھی مردود اور فضول ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے مثلاً دیکھیں کہ سورج چاند دن رات موسموں کا حساب دین اور دنیا کا ہر کام مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سکول کا حج و فتوڑ کی ڈیوٹیاں اور کھانے پینے کا وقت وغیرہ اور اسی طرح ہزاروں چیزوں میں ہیں الہذا صرف وقت مقرر کرنے سے ہی یہ ایصال ثواب ناجائز یا گناہ یا حرام نہیں ہو سکتا رہا مسئلہ وقت مقرر کرنے کا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وقت مقرر کر لیں تو تب بھی جائز ہے اور نہ کہ اس تو تب بھی جائز ہے اور ہم اپنی آسانی کے لئے وقت مقرر کرتے ہیں جیسے شادی بذات خود جائز ہے اور اس میں وقت مقرر کرنا بھی جائز ہے اور اسی طرح ایصال ثواب کرنا بھی بذات خود جائز ہے اور اس کے لئے بھی وقت مقرر کرنا جائز ہے عزیزم شادی اور اس ختم میں وقت مقرر کرنا اپنی آسانی کے لئے ہے ورنہ وقت مقرر کرنے کے بغیر بھی یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں ہاں اگر ان کے لئے وقت مقرر کرنا ناجائز ہے تو دلیل پیش کریں کہ جس سے کھلے لفظوں ثابت ہو جائے کہ حضور ﷺ نے وقت مقرر کرنے سے منع فرمادیا ہے اور پھر مخالفین کو چاہئے کہ شادی بیانہ کے موقع پر بغیر وقت مقرر کئے جایا کریں اور اگلے گھروالوں سے جوتے کھایا کریں اور اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر مخالفین کو چاہئے کہ اس طرح عمل کیا کریں تاکہ کوئی چیز مقرر نہ ہو جائے۔

”

## (لطیفے)

اشتہار جلسہ۔ کوئی تحصیل کسی ضلع میں بمقام کسی شہر کے کسی محلہ کی کسی مسجد میں کسی مہینہ کی کسی تاریخ کو دن یا رات کے وقت میں کسی نہ کسی موضوع پر جلسہ عام ہو گا جس میں کسی علامہ کو خطاب سکیلے وقت دیا جائیگا اور جلسہ کی صدارت بھی کوئی صاحب ادا کر ہی جائیں گے لہذا کسی صاحب سے اپیل ہے کہ کوئی صاحب کسی جلسہ میں آ کر واقع کو دو بالا کر دے الداعی الی الخیر کوئی صاحب۔

2۔ خط کسی کے مرنے کا گزارش ہے کہ کسی صاحب کا کوئی فرزند فوت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کسی صاحب کو بہت صدمہ ہوا ہو گا اور شاید تم میں سے بھی کوئی اس صدمہ کی پیش میں آیا ہو گایا آجائے گا ہماری دعا ہے کہ کسی مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جگہ عطا فرمادے۔ (آمین)

3۔ خط کسی کی شادی کا کوئی صاحب مکرم جناب کوئی بندہ السلام علیکم جناب عرض ہے کہ کسی صاحب کے کسی بیٹے کی کسی صاحب کی کسی لڑکی سے شادی خانہ آبادی ہے لہذا کسی سال کسی مہینہ کی کسی تاریخ کے دن کسی وقت کسی شہر کے کسی محلہ کی کسی گلی نمبر میں کسی مکان پر تشریف آوری فرمائ کسی جگہ کی برات کی رو انگی پر ہماری کسی نہ کسی خوشی میں شرکت فرمائ کسی صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائ کر شکریے کا موقع دیں شکر گزار بندہ کوئی صاحب۔

سوال 14: — جی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں تو درست ہیں یعنی قرآن و احادیث کے مطابق

جاائز ہیں، جو آپ ختم میں کرتے ہیں لیکن ان کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

جواب: جناب اگر ان کو جمع کرنا منع ہے یا اللہ نا راض ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق دلیل پیش کریں کیونکہ جمع کرنے کی حرمت ثابت کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے ہمارے نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہر روز ایک پارہ پڑھ کر اور اس نفل پڑھ کر اور ایک ہزار بار درود شریف

پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے تو بظاہر اگرچہ ایسا قرآن و احادیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ذرا سوچ کر جواب دیں۔

سوال 15:- کھانا سامنے رکھ کر اس پر دعا نہیں مانگنی چاہئے؟

جواب: جناب یہ دعا برکت کیلئے مانگی جاتی ہے جو کہ حضور ﷺ سے بھی ثابت ہے۔

۱۔ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کر ان پر خود دعا مانگی ہے۔

(مشکوٰۃ ج 3 ص 186)

۲۔ حضور ﷺ نے کھانے پر برکت کی دعا مانگی۔ (مشکوٰۃ ج 3 ص 184)

۳۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ آپ ﷺ کے پاس بھجو ریں لائے تو آپ ﷺ نے ان پر برکت کی دعا مانگی۔ (مشکوٰۃ ج 3 ص 195)

۴۔ حضرت جابر کے گھر روٹیاں پکانے کیلئے آبنا گوندھا ہوا تھا تو آپ ﷺ نے اس پر برکت کیلئے دعا مانگی۔ (مشکوٰۃ ج 3 ص 171)

کیوں جناب اب آپ کے فضول اور ناکارہ فتوؤں کو دیکھا جائے یا حضور ﷺ کی ان احادیث مبارکہ سے حضور ﷺ کے طریقہ مبارکہ کو دیکھا جائے۔

سوال 16:— تم جو یہ ایصال ثواب کرتے ہو یہ بدعت ہے۔

جواب: جناب ہم ایصال ثواب کرنا قرآن و احادیث سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا ایصال ثواب کرنا بدعت ہرگز نہیں ہے بلکہ حضور ﷺ سے ثابت ہے اور بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو حضور ﷺ سے ثابت نہ ہو بلکہ بعد میں شروع ہوا ہو۔ اور شریعت میں اس کی کوئی اصل وجہ منع

سوال 17:— جی ایصال ثواب کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کرنا چاہئے لیکن تمہاری طرح

نہیں کیونکہ تمہارا یہ طریقہ بدعت ہے۔

”

جواب 1: بدعت اس کو کہتے ہیں جو چیز حضور ﷺ کے بعد شروع ہوئی ہو اور اس تکمیل کی اصل کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو اب ذرا اپنی ہر چیز کی طرف نظر کر کے دیکھیں کہ کیا اس زمانے کی دینی یا دنیاوی ہر چیز حضور ﷺ کے وقت میں موجود تھی ہرگز نہیں بلکہ ہزاروں ایسی چیزوں میں ہیں جن پر تم دن رات عمل کر رہے ہو اور قرآن و احادیث میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا لیکن ان پر سُنی وہابی دیوبندی شیعہ اور مرزائی وغیرہ سب عمل کرتے ہیں اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ اسے ہم بھی مانتے ہیں تو یہ آپ کا کھلا دھوکہ فریب اور جھوٹ ہے کیونکہ ایک طرف تو تم اس عمل کو اس طرح دیکھتے ہو جیسے کسی دشمن کی طرف نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف خود ہی اسکا اقرار کر رہے ہو۔

جواب 2: جناب پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ بھی قرآن و احادیث کے عین مطابق ہے مخالف نہیں ہاں اگر پھر بھی تم کو ہمارے اس طریقے کے متعلق بدعت کا خطرہ ہی ہے تو پھر ہمارے اس سوال کا جواب دو

کیا حضور ﷺ نے جمعہ کے دن جمعہ کی ایک نماز کیلئے دواذانیں دلوائیں تھیں حضور ﷺ سے ثابت کرو کیا حضور ﷺ نے کبی اینٹوں کی مسجد بنوائی تھی۔

کیا حضور نے مسجد کا محراب بنوایا تھا حضور ﷺ سے ثابت کرو کیا حضور ﷺ نے شینکوں توپوں اور جنگی جہازوں سے کوئی جنگ لڑی تھی کیا حضور ﷺ نے کسی جنگ میں میزاں، بہم کار تو س اور گولیاں وغیرہ استعمال کی تھیں اگر نہیں تو تم کیوں استعمال کرتے ہو اور جن ہتھیاروں سے حضور ﷺ نے جہاد کیا تھا تم ان کے علاوہ اور کیوں استعمال کرنے تھے ہو اور ہاں یہ جو تم ان ہتھیاروں سے جنگ لڑتے ہو کیا ان کا اجر بھی ملے گا یا نہیں اور جوان سے مارا گیا اس کا کیا حکم ہے کیا وہ حرام موت مرایا شہید چکہ یہ طریقہ اور چیزوں حضور ﷺ سے ثابت نہیں ہیں اور کیا قرآن مجید کے

سپارے رکوئے شدیں مدیں زبریں زیریں اور اس کا ترجمہ وغیرہ اور اس کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں لکھوا�ا کیا حضور ﷺ نے اپنی مسجد میں پکی اینٹیں لگوا کیں اور مسجد میں چپس ٹیلیں شیشہ بجلی کا کام لو ہے کے دروازے وغیرہ پر اپناروپیہ خرچ کیا اگر نہیں تو کیا تمہارا روپیہ پیسہ ضائع ہوا یا اس کا بھی اجر ملے گا جواب دو کیا حضور ﷺ نے احادیث کی کتابوں کے نام فتحب فرمائیں کہ اس کے درجے بنائے تھے مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کیا حضور ﷺ نے احادیث کی قسمیں بنائیں مثلاً صحیح، ضعیف اور حسن وغیرہ کیا تمام ماہ رمضان میں تراویح پڑھائیں اور کیا تمام مہینہ تراویح پڑھانے کیلئے کوئی حافظ مقرر کیا کیا علماء اور حافظوں قاریوں موزونوں کی تشویاہیں مقرر کیں اور کیا یہ چھٹے اور ایمان کی صفتیں جس طرح تم اپنے بچوں کو یاد کرتے ہو کیا یہ حضور ﷺ سے ثابت ہیں اگر نہیں

تو پھر یہ جتنی چیزیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے ہاں اگر ثابت ہیں تو دلیل پیش کرو اور اس کے علاوہ کیا جمعہ کے خطبہ میں خلفاء راشدین اور اہل بیت کے نام لئے جاتے تھے۔ احادیث اور فقہ کی کتابیں اور ان کے حاشیے اور یہ فتاوی وغیرہ کے مجموعے اور ان درسگاہوں کے اوقات اور نصاب طریقہ تدریس، سالانہ جلسے، تقسیم اسناد، تشویاہیں، کمیٹیاں، لاڈاپسکر، ایمپلی فائر گھریاں اور تسبیحوں پر ذکر کرنے کیا یہ سب کچھ حضور ﷺ سے ثابت ہے دلیل پیش کرو۔

نہ خیر اٹھے گا نہ تلواران سے

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

اب خدارا النصاف کرو کہ ایک طرف تو صرف اسلئے چیز کو چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ حضور سے ثابت ہی نہیں ہے اور دوسری طرف خود ہی سینکڑوں الیکی چیزوں پر دن رات عمل کر رہے ہیں جو کہ حضور ﷺ سے ثابت ہی نہیں ہیں ہاں اگر چھوڑنا ہے تو سب کو چھوڑو ماننا ہے تو سب کو مانو یہ کیا عقیدہ

ہے کہ بعض کو چھوڑ دیا اور بعض کو مان لیا۔ جناب ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل سے فوت شدہ کا درد ہی ختم ہو چکا ہے کہ ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو تھیں کوئی پروافہ نہیں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مردے ڈوبنے والے کی طرح ہوتے ہیں اور تم کہتے ہو تو وہ جانے دو اور حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ زندوں کی طرف سے دعا و استغفار کے منتظر ہوتے ہیں اور تم کہتے ہو منتظر ہوتے ہیں تو رہنے دو

پڑھ کے بخشا نہیں قرآن کتے، مردے نہ بخشدے جان  
مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود قل نہ تیجہ ساختے، مردہ گیا گواہ  
و یکھیں ایک جنگ میں قرآن پاک کے قاری بہت زیادہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروقؓ نے  
حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کام  
خود حضور ﷺ نے نہیں کیا تم کیسے کرو گے تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر چہا سے حضور ﷺ نے نہیں کیا  
لیکن یہ کام اچھا ہے۔ اسی طرح دونوں صحابیوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی آخر صدیق اکبر  
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا کہ عمر جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں پھر اس کام کیلئے حضرت  
زید کو کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ اے حضرت ابو بکر صدیق جو کام حضور نے خود نہیں کیا تم کیسے کرو  
گے تو پھر آپ نے بھی فرمایا کہ اگر چہا سے حضور نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے تو پھر حضرت زید  
نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اس پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے کا حکم دیتے تو  
پھر میرے لئے آسان تھا۔ آخر حضرت زید بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا حضرت ابو بکر  
جو فرمائے ہے ہیں صحیح ہے کہ اگر چہا سے حضور ﷺ نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے تو پھر انہوں نے  
اس قرآن کو ایک جگہ جمع کیا۔ (مشکوٰۃ جلد اص 481 باب اختلاف قراءات)

سوال 18: — باقی توسیب کچھ جائز ہے لیکن یہ جو آپ کھانا کھلاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے

کیونکہ فوت شدہ کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے۔

جواب 1: جناب یہ بھی بتائیں کہ کتنے دن تک تمام زندگی یا سوگ تک اگر تمام زندگی ہے تو پھر وہ کونسا گھر ہے جہاں کوئی فوت نہیں ہوا اور یہ میسوں اور چالیسوں وغیرہ تو تیرے دن کے بعد ہے۔

جواب 2: جناب ہمارے نزدیک اس ایصال ثواب کے موقع پر کھانا کھلانا نہ شرط ہے نہ لازمی اسی لئے ہمارے نزدیک اگر کسی نے کھانا کھلایا تو توب بھی درست ہے اور اگر کھانے کا انتظام نہیں کیا تو توب بھی درست ہے اور رہا مسئلہ ایصال ثواب کے لئے کھانا کھلانا تو صحابہ کرام بھی اسے مستحب سمجھتے تھے (اعانۃ الاحباب ص 29) ایصال ثواب کیلئے کھانا کھلانے کا استحباب حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے نقل کیا ہے۔ (اعانۃ الاحباب 37)

حضرت عاصم بن کلیب سے روایت ہے کہ ایک صحابی فوت ہو گئے تو اس کی بیوی نے آپ ﷺ کے پاس کھانا بھیجا (مشکوٰۃ ح 31 ص 199) اور ایصال ثواب کیلئے کھانا کھلانے کو مخالفین کے علماء بھی جائز سمجھتے ہیں ویکھیں مولوی اسماعیل دہلوی تکھتے ہیں کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مردوں کو طعام اور فاتحہ خوانی سے نفع پہنچنا اچھا نہیں ہے بلکہ یہ بات بہتر اور افضل ہے۔

(صراط مستقیم)

## ﴿حضرات گرامی کھانا کھلانے کی چند صورتیں ہیں﴾

(1) مثلاً بعض دفعہ ختم پڑھانے والا کوئی تھوڑی سی چیز لے کر ختم پڑھنے والے کے پاس لے جاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت قرآن پڑھ کر دعا مانگ دیتا ہے اور وہ چیز بچوں وغیرہ میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور اس طرح عموماً ہوتا رہتا ہے۔

(2) اسی طرح بعض دفعہ محقق میلاد معراج النبی لیلۃ القدر شب برات ذکر واذ کار اور عام

وعظ و نصیحت کی محفلوں میں جو بھی تھوڑا بہت تبرک ہواں پر ختم پڑھ کر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح بھی عموماً ہوتا رہتا ہے۔

(3) بعض دفعہ چند دوست کسی دکان پر بیٹھے ہوئے کسی خوشی کی وجہ سے تھوڑی بہت شرینی منگا کر ختم پڑھ کر تقسیم کر دیتے ہیں۔

(4) بعض دفعہ کوئی شخص نئی دکان بناتا ہے یا نیا مکان بناتا ہے تو سودار کھنے سے پہلے یا رہائش اختیار کرنے سے پہلے وہاں برکت کیلئے قرآن مجید پڑھ کر ختم دلاتا ہے۔

(5) بعض لوگ نوافل وغیرہ اور کلمہ پاک درود شریف ذکر و اذکار اور تلاوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور چند ماہ کے بعد تھوڑی بہت شرینی منگا کر ختم پڑھ کر فوت شدہ کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔

(6) بعض دفعہ کئی لوگ مکان یا دوکان بدلتے ہیں تو وہاں سودار کھنے سے پہلے یا رہائش اختیار کرنے سے پہلے برکت کیلئے قرآن مجید پڑھا کر ختم دلا کر تھوڑی بہت شرینی تقسیم کر دیتے ہیں۔

(7) اسی طرح میلاد النبی وغیرہ یا کسی اسلامی تہوار کے موقع پر ختم پڑھنے والے کو اپنے گھر بلا کر تھوڑی بہت چیز پر ختم پڑھ کر بچوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔

(8) بعض دفعہ گھر میں خوشی وغیرہ یا کسی اور موقع پر دس بیس پارے پڑھ کر ختم دلا کر دیا جاتا ہے۔

(9) بعض دفعہ کسی خوشی کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت چیز دکان سے منگا کر اس پر ختم پڑھ کر تقسیم کر دی جاتی ہے۔

(10) اور بعض دفعہ ختم پڑھنے والے نے پاس کوئی چیز سمجھی جاتی ہے تو وہ ختم پڑھ کر انی

طرح وہ چیز واپس بھیج دیتا ہے اور اس طرح بھی عموماً ہوتا رہتا ہے۔

(11) اور ختم خواجگان میں تو بالکل کچھ بھی نہیں کھلایا جاتا نہ تقسیم کیا جاتا ہے یعنی نہ تبرک نہ کھانا۔

### ﴿قابل توجہ نقطہ﴾

جناب ان تمام صورتوں میں کھانا کھلانے کا ہرگز کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ان صورتوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن ایسے اکثر دفعہ ہوتا ضرور رہتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ ختم تو پڑھا جاتا ہے لیکن کھانے کا انتظام ہرگز نہیں کیا جاتا مثلاً قل شریف کا ختم اور ختم خواجگان اور گیارہویں شریف کی شرینی وغیرہ کے وقت اس لئے اب اگر تمہارے نزدیک کھانا کھلانے کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے تو یہ جو چند صورتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیوں نہیں کر لیتے کیونکہ ان صورتوں میں تو کھانا کھلانے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم یہ بھی ہرگز نہیں کر سکو گے لہذا یہ فضول اعتراض سب تمہارے حیلے اور بہانے ہیں۔

### ﴿اب رہا کھانا کھلانے کا مسئلہ تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں﴾

۱۔ کسی پروگرام کے ماتحت گھر میں چند مہان آ جاتے ہیں تو ان کے لئے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس پر قرآن پڑھ کر ختم پڑھ دیا جاتا ہے۔

۲۔ افطاری کے لئے کھانے پینے کی چیزوں پر ختم پڑھ کر اس کا ثواب فوت شدگان کو بخشن دیا جاتا ہے۔

۳۔ وعظ و نصیحت یا ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لئے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس پر ختم پڑھ دیا جاتا ہے۔

۴۔ اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت اور کھانے پر ختم پڑھ کر اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

۵۔ بعض دفعہ خوشی کے موقع پر اپنے بال بچوں کے لئے گھر میں ہی کوئی اچھی سی چیز پکاراں پر ختم پڑھ کر اس کا ثواب فوت شدہ کو بخش دیا جاتا ہے۔

۶۔ اور بعض دفعہ کوئی اپنا مکان یا کوئی وغیرہ بناتا ہے تو خوشی میں قرآن پڑھ کر ختم دلا کر عام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جناب اسی طرح کے کئی اور موقعوں پر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے جس پر بذاتِ خود کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اور اس کھانے پر بھی قرآن پاک پڑھ کر ختم پڑھ دیا جاتا ہے لہذا اگر مخالفین ساتھ دسوال، بیسوال اور چالیسویں کے کھانے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں تو پھر یہ جو چند صورتیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں تو کوئی بیسوال یا چالیسویں وغیرہ کا کھانا ہرگز نہیں ہے لہذا ان پر ہی ختم پڑھ لیا کریں کیونکہ ان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔

رہا بیسویں یا چالیسویں وغیرہ کا کھانا تو اس وقت دور و نزدیک سے جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کیلئے بھی کھانے کا انتظام کرنا جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ (مشکوٰۃ باب الصیافت) بلکہ اس طرح تو مخالفین بھی اپنے فوت شدہ کے افسوس کیلئے آئے ہوئے مہمانوں کو سکھنے وال کھانا کھلاتے ہیں اور ہم بھی کھلاتے ہیں لیکن ہم پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں اور وہ بغیر پڑھے کھلادیتے ہیں۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنيات (مسلم مشکوٰۃ) یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی اگر نیت نیک اور صاف ہے تو اجر ہے اور اگر نیک نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی دکھلوے کے عمل کا اجر نہیں اگر چہ نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو اس کے متعلق مزید دیکھیں سُجْنی شہید اور عالم کا واقعہ ((مشکوٰۃ ج 11 ص 64 کتاب الحلم) لہذا ثابت ہوا کہ اگر حلال کی کمائی کا کھانا نیک نیت سے

اپنے کسی مسلمان بھائی یا مہمانوں غریبوں مسکینوں اور بچوں وغیرہ کو کھلادیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے کوئی منع یا گناہ ہرگز نہیں ہے۔ لہذا وہ کھانا جو مہمانوں کیلئے تیار کیا گیا ہوا اگر اس پر تھوڑا بہت قرآن مجید پڑھ کر دعا مانگ لی جائے تو کوئی گناہ یا حرام نہیں ہے ہاں اگر گناہ یا حرام ہے تو دلیل پیش کریں اور ویسے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کچھ کھلا پلا دینا یہ کوئی گناہ یا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور ہر جائز عمل میں اگر نیت نیک کر لی جائے تو اس کا اجر ملتا ہے جیسا کہ ہم احادیث مبارکہ سے ثابت کر چکے ہیں۔

**سوال 19:** — حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہئے اور تم چالیس دنوں تک سوگ مناتے ہو

**جواب:** جناب ہم تین دن تک ہی سوگ کرتے ہیں اسی لئے تو ہم تیرے دن کے بعد افسوس کیلئے نہیں بیٹھتے اور رہا مسئلہ چالیسوں کا تودہ دن تو ایصال ثواب کیلئے مقرر کیا ہوتا ہے نہ کہ سوگ کیلئے رہا اس دن فوت شدہ کی یاد میں آنسوؤں کا آجانا یہ تو سینکڑوں لوگ اپنی موت تک اپنے کسی پیارے عزیز کو یاد کر کے روپڑتے ہیں یعنی کسی کی محبت میں روپڑنا اور آنسوؤں کا آجانا یہ علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ ایصال ثواب علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ آنسو وغیرہ ایصال ثواب میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم سے عذاب نہیں فرماتا۔ (بہار شریعت حصہ 4 ص 137)

**سوال 20:** — ایصال ثواب کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہمیں قل ساتھ دسوال بیسوال اور چالیسوں وغیرہ کا ثبوت چاہئے اس کے متعلق کوئی حوالہ پیش کریں۔

**جواب 1:** برادران اسلام یا اپے ہی ہے جیسے کوئی بیوقوف اور جاہل کہے کہ ہمیں بخاری شریف کا حوالہ نہیں حدیث کی کتاب کا حوالہ چاہیے کیونکہ بخاری شریف حضور ﷺ کے وقت میں نہ تھی

اور اسی طرح مسلم شریف کا حوالہ نہیں حدیث کا چاہیے ترمذی کا نہیں حدیث کا چاہیے نبأی کا نہیں حدیث کا چاہیے ابو داؤد کا نہیں حدیث کا چاہیے ابن ماجہ کا حوالہ نہیں حدیث کا چاہیے کون اس عقل کے اندر ہے کو سمجھائے کہ ارے بیوقوف یہ سب احادیث کی کتابوں ہی کے نام ہیں اسی طرح کہے کہ میں اُن ایسی احادیث کو نہیں مانتا جو صحیح حسن ضعیف مرفوع اور موقوف ہوں کیونکہ ایسی قسموں والی احادیث حضور ﷺ کے وقت میں نہ تھیں حالانکہ اصل احادیث تو حضور ﷺ سے ہی ثابت ہے۔

ہیں اگر چہ یہ قسمیں بعد میں بنیں ہیں تو اسی طرح ختم یعنی ایصال ثواب بھی تو قرآن و احادیث سے ہی ثابت ہے اگر چہ یہ مختلف قسم کے نام بعد میں پڑے ہیں یعنی قل ساتھ چالیسوں وغیرہ اور ایصال ثواب کو تو تم بھی مانتے ہو اور اس کے علاوہ اگر ذرا سا بھی غور کریں گے تو ہماری بات آپ کی سمجھی میں بھی آجائے گی ویکھیں کہ اکثر دفعہ چالیسوں کا ختم ہم بیسویں یادسویں پر ہی دلوادیتے ہیں اور اس طرح چالیسوں دن تو نہ ہوا اور اسی طرح دسویں بیسویں اور گیارہویں شریف وغیرہ پر بھی اکثر دفعہ دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں تو ثابت ہوا کہ قل ساتھ دسوں وغیرہ تو ایک قسم کے نام ہی ہیں اور اصل مقصد تو ایصال ثواب کرنا ہے۔

جواب 2: اور اسی طرح اگر کوئی جاہل کہے کہ قرآن میں تو ہے اقیمو الصلوٰۃ قائم کرو صلوٰۃ کو یہ کہاں ہے کہ نماز پڑھوای لئے تو ہم نمازوں پڑھتے ورنہ نماز پڑھنے کا حکم دکھاؤ اسی طرح قرآن میں صیام کا ذکر ہے روزے کا نہیں اسی لئے ہم روزے نہیں رکھتے ورنہ روزے رکھو کا لفظ دکھاؤ اسی طرح قرآن میں مسجد کا نام تو ہے لیکن میت کا نہیں اسی طرح غسل کا ہے نہانے کا نہیں تو جناب یہی حال ایصال ثواب کو مانے اور ختم کونہ مانے والوں کا ہے ہاں جس کی کھوپڑی میں اب بھی یہ مسلسلہ آئے تو وہ کسی بریلوی جید عالم دین سے اپنی اس پیار کھوپڑی میں جو دماغ نہ ہے اس کا آپ پر پیش کرائے انشاء اللہ سمجھیں آجائے گا۔

سوال:- آپ نے اس کتاب میں جو آئیں پیش کی ہیں ان کا ختم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیثیں پیش کی ہیں ان کا بھی ختم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ جو دلیلیں دی ہیں ان میں بھی ختم کا نام و شان تک نہیں ہے۔

جواب:- جناب آپ کے اس سوال کا جواب اسی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھیں اندر ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ جناب ابتداء ہی میں یہ جو مضمون دیا گیا ہے کہ (اس ایصال ثواب کا نام ختم کیے پڑا) اسے ذرا ہوش سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ جو مضمون ہے (ختم کا ثبوت قرآن و حدیث سے) اس مضمون میں پیش کی گئی ابتدائی چیزوں کو ذرا دماغ کو حاضر کر کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد (ختم پر یعنی ایصال ثواب پر چند اعتراضات کے جوابات) کے مضمون میں پہلے سوال کا جواب پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ بات کریں۔

اب رہادھوی اور دلیلوں کا مسئلہ تو جناب آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو کسی سے ادھار ہی مانگ لیں کیونکہ ہم نے ختم کے ثبوت میں بیان کیا ہے۔ کہ ہم سب سے پہلے فوت شدہ کو ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید ختم کرتے ہیں اسی لیے ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنے کے جواز پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اور پھر ذکر و اذکار کرتے ہیں اس لیے پھر اس کے جواز پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کے جواز پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اور پھر فوت شدہ کے لیے دعائے بخشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے جواز پر دلائل پیش کیے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کھانے کے متعلق دلائل پیش کیے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ صاف لفظوں میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ختم یعنی ایصال ثواب چند جائز چیزوں کی جزئیات کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور پھر ان تمام جزئیات کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ کسی ہیر راجحے کی کتاب سے نہیں ہاں اگر کسی ظاہری اور باطنی اور ازالی اندر ہے

کو نظر آئے تو اس میں ہمارا کیا تصور ہے۔ کیونکہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے جائز ثابت ہو جائے تو وہ جائز ہی ہے حرام یا نماز ہرگز نہیں ہے۔

اب رہا دلیلوں میں ختم کے نام و شان کا مسئلہ تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگر کوئی بیوقوف کہے کہ نماز کیا ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو اسے یہی کہا جائے گا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک و صاف ہو کر تکبیر تحریمہ کے قیام کرے قرآن پڑھنے کے روکع کرے سجدہ کرے التحیات بیٹھنے اور نماز مکمل کر کے سلام پھیر دے تو وہ بیوقوف کہے کہ میں تم سے تکبیر تحریمہ قیام قرأۃ رکوع سجدۃ التحیات اور سلام پھیرنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا میں تو نماز کے متعلق پوچھ رہا ہوں تو کیا ہر شخص اس کو نہیں کہے گا کہ اسے بیوقوف ان ہی چیزوں کے مجموعہ کا نام نماز ہے اسی طرح کوئی بیوقوف کہے کہ جناب نج کے کہتے ہیں۔ لیکن میرے نہ یہ احرام طواف رمی اور قربانی وغیرہ کا ذکر نہ کریں۔ صرف نج کا کریں تو اسی طرح کوئی بیوقوف کہے کہ مجھے روزہ کیا چیز ہے۔ لیکن کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے پر بیز وغیرہ کا ہرگز ذکر نہ کریں صرف روزہ کا ذکر کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوقوف کہے کہ مجھے درخت کے متعلق بتائیں لیکن اس کی جڑتے پتے اور پھل پھول وغیرہ کا ذکر نہ کریں۔ اسی طرح آدمی کے متعلق بتائیں لیکن اس کے باتحہ پاؤں بازو ناگلیں سرد ہڑگردن آنکھیں کان ناک وغیرہ کا ذکر نہ کریں تو جناب یہی حال ان بے چارے ختم یعنی ایصال ثواب پر اعتراض کرنے والوں کا ہے کہ جناب ہمیں ختم کا ثبوت چاہیے لیکن قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر فوت شدہ کو ایصال ثواب اور اس کے لئے دعائے بخشش وغیرہ کا ذکر نہ کریں۔ صرف ختم کی بات کریں تو جناب کون اسے بیوقوف پاگل اور اندر ہا نہیں کہے گا۔ کیونکہ جب نماز میں ان مذکور شدہ چیزوں کا ذکر ہی نہ ہوگا۔ تو وہ نماز کس چیز کی ہے اور اسی طرح اگر نج میں قربانی، رمی اور طواف وغیرہ کا ذکر ہی نہ ہوگا تو وہ نج کس چیز کا

ہے۔ اور اگر روزہ میں کھانے پینے اور جماع سے پر ہیز ہی نہ ہو گا تو وہ روزہ کس چیز کا ہے اور اسی طرح اگر درخت میں جڑ، پتے، تنادغیرہ بھی نہیں ہیں تو وہ درخت کس چیز کا ہے اور اسی طرح ایک عقل مند ایسی ہزاروں چیزوں پر غور کر سکتا ہے۔

تو اسی طرح جناب ختم میں اگر تلاوت قرآن دعا یعنی بخشش اور ایصال ثواب اور نیک اعمال وغیرہ کا ذکر ہی نہ ہو گا تو وہ ختم یعنی ایصال ثواب کس چیز کا ہے۔ لہذا ہمارے ان قرآن و احادیث سے پیش کردہ تمام دلائل کا تعلق ختم یعنی ایصال ثواب کے ساتھ ہے یاں اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ان پیش کردہ تمام دلائل میں ختم کا نام و نشان تک نہیں ہے تو جناب یہ سوال نہایت بھی چیزیں کی دلیل ہے کیونکہ دیکھئے کہ کلمہ شریف میں کلمہ کا نام نہیں ہے۔ اذان میں اذان کا نام نہیں ہے۔ اور نماز میں نماز کا نام نہیں ہے۔ تو کپا اب یہ کلمہ اذان اور نماز پڑھنا حرام ہے ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح ایک عقل مند ایسی ہزاروں چیزوں میں غور کر سکتا ہے۔ کہ جن میں اصل چیز کا ذاتی نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ اس لئے جناب آپ جائیں اور جا کر کسی سُنی عالم دین سے اپنی اس بیمار کھو پڑی کا علاج کرائیں۔ کیونکہ بیمار کو اچھی چیز بھی کڑوی اور بد مردگتی ہے۔

(سوال) جی تم فوٹگی کے بعد چالیس دن تک غریب کو کھانا کھلاتے ہو کیا یا سے پہنچتا ہے۔

جواب۔ ارے اندھے یہ کھانا نہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔

(سوال) تم قرآن پڑھاتے ہو کیا یہ پہنچتا ہے۔

جواب۔ جناب قرآن پڑھنا صدقہ ہے اور ہر صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے۔

سوال 21:- کیا حضور نے ختم دلایا تھا یا اپنے کسی صاحزادی کا قتل ساتھ دسوال یا چالیسوال کرایا تھا۔

جواب 1: جناب ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ختم نام ہے ایصال ثواب کا اور حضور کا اپنی آل اور اپنی امت کو ایصال ثواب کرنا ہم کھلے الفاظوں احادیث مبارکہ سے ثابت کر چکے ہیں اور یہ دسوال بیسوال اور چالیسوال وغیرہ تو سب اس ختم یعنی ایصال ثواب کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں اور اس کے جائز ہونے کا ثبوت ہم قرآن و احادیث سے پیش کر چکے ہیں

جواب 2: ایک ذفرہ خود حضور ﷺ نے ایک ذنبہ ذبح کرتے وقت یوں فرمایا اللهم تقبل من محمد و آل محمد ومن أمة محمد یعنی اس کو محبوب ﷺ اور اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرماتو جناب آل کہتے ہیں اولاد بیٹے پوتے کنبہ اور نسل کو (فیروز لlagat ص 29) کیوں جناب اس حدیث میں آپ ﷺ کی تمام آل اور امت داخل ہے یا نہیں الہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے اپنی تمام آل اور امت کو ایصال ثواب کیا ہے اور عرف عام میں اسی ایصال ثواب کا دوسرا نام ختم ہے الہذا الفاظ آل میں آپ ﷺ کے صاحزادے اور صاحزادیاں بھی داخل ہیں تو پھر ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنے صاحزادے اور اپنی صاحزادیوں کو بھی ایصال ثواب کیا ہے اور ایصال ثواب کا ہی دوسرا نام ختم ہے یعنی ختم میں ہم ایصال ثواب ہی کرتے ہیں۔

کوئی لیلہ مجنوں اور ہیر رانجھے کے قصے اور کہانیاں وغیرہ ہرگز نہیں پڑھتے اور قل ساتھ دسوال وغیرہ یہ ایصال ثواب کے ہی مختلف نام ہیں الہذا تمہارا یہ سوال ہی سخت جھالت کی دلیل ہے۔ ایک ذفرہ حضور ﷺ نے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یوں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے ہے اور اسکی طرف سے ہے لم یفتح من امتی یعنی جس نے بھی میری امت سے قربانی

نہیں کی (مشکوٰۃ ج ۱۱ ص ۳۱) کیا آپ ﷺ کی اولاد پاک آپ ﷺ کی امت میں داخل ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر اسے بھی ثواب پہنچایا گیا ہے یا نہیں جواب دو۔

**سوال 22:** — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل فرمادیا ہے تو کیا ختم یعنی ایصال ثواب کی ہی کمی رہ گئی تھی۔

**جواب:** جناب اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو کسی سے ادھار ہی مانگ لو ورنہ ضد اور حسد کی سیاہ عینک ذرا اپنی آنکھوں سے اتار کر تو دیکھو کہ کیا یہ ایصال ثواب قرآن و احادیث سے حضور ﷺ کی حیات ظاہری ہی سے ثابت ہے یا نہیں تو اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر جتنی چیزیں ہم نے بدعت کے جواب میں بیان کی ہیں تو ان پر کیوں عمل کرتے ہو کیا ان کی ہی کمی رہ گئی تھی اور کیا ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا تھا۔

**سوال 23:** — تمہارا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔

**جواب 1:** لا وَكُنْيَةٌ وَهُدْدِيْثٌ ہے حضور ﷺ کے طریقے والی جو دوسرے طریقوں کو حرام کرتی ہے ورنہ حضور ﷺ کا طریقہ تو احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت اپنی آل پاک اور اپنی امت کا نام لیا اور خاص کر ان امتيوں کو جو قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ ان سب کو اسی طریقے سے ایصال ثواب کیا ہے تو اب کیا ہم صرف اس ہی طریقے سے اپنے قربانی کے جانوروں سے ہی ایصال ثواب کریں یا اس کے علاوہ کسی اور بھی نیک طریقے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں مثلاً قرآن مجید پڑھ کر کلمہ شریف اور درود شریف اور نوافل وغیرہ سے لیکن اس طرح تو حضور ﷺ سے ثابت ہی نہیں ہے اور ہاں اگر ثابت نہیں ہے تو پھر کیا اب ہم ان چیزوں کا ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو دلیل پیش کریں یا اس کے علاوہ ہم نے ایصال ثواب کے باب میں جواہادیت پیش کی ہیں سوائے چند ایک ”کے باقی سب احادیث خاموش ہیں

کہ صحابہ کرامؐ نے حضور ﷺ سے اجازت کے بعد کس طریقہ سے ایصالِ ثواب کیا ہے اور ہم کس طریقہ سے کریں تو اس کے متعلق بھی دلیل پیش کرنا تمہارے ذمہ ہے ہمارے نہیں ہے۔

**جواب 2:** امرے ثم نے طریقہ طریقہ کی گردان کی رٹ لگا رکھی ہے حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے تو کوئی ایک طریقہ مقرر ہی نہیں فرمایا کہ صرف اس طریقہ اور اس چیز سے ہی ایصالِ ثواب کرو کسی اور چیز یا طریقہ سے نہیں اور نہ ہی کسی چیز پر پابندی لگائی ہے کہ صرف اس عمل کا ثواب پہنچاؤ گے تو پہنچے گا اور نہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایک طریقہ مقرر کیا ہے یا پابندی لگائی ہے تو دلیل پیش کریں اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہر روز قرآن کے دس پارہ کی تلاوت کر کے اور دس نفل پڑھ کر دس بار کلمہ اور درود شریف پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتا ہے اگرچہ یہ حضور ﷺ سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں صاحب قبر کو پہنچے گا یا نہیں اور ہاں ایک دفعہ میں نے سرگودھا کے علاقہ میں دیکھا کہ چالیسویں کے ختم پروفت شدہ کو ثواب پہنچانے کیلئے ایک طرف تو بچوں سے قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہے۔

## ﴿قرض کا ادا کرنا﴾

حضرات گرامی اگرفوت شدہ کے ساتھ بھلائی یعنی خیرخواہی چاہتے ہو تو ختم کے ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی ادا کیا کرو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرض کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ قرض ادا کر دینے کے بعد یا ادا کر دینے کے وعدہ پر۔

1- ایک حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا (مشکوہ ج 21 ص 29 باب الافق) حضرات گرامی یہ شہید کا حال ہے اور باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ جو اگر کئے گئے درمیں قرض کے کروالیں ہی نہیں کرتے۔

- 2- ایک شخص نے حضورؐ کے پاس آ کر عرض کی کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے تو آپؐ نے فرمایا کہ قرض کے سواباتی تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ ج 21 باب الافق مشکوٰۃ کتاب الجہاد) حضورؐ نے فرمایا کہ مومن کی روح اپنے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ (مشکوٰۃ باب الافق)
- 3- ایک شخص فوت ہو گیا تو حضورؐ نے اس کے بھائی سے فرمایا کہ تیرا بھائی قرض کی وجہ سے قید کر دیا گیا ہے اس لئے اس کا قرض ادا کرو۔ (مشکوٰۃ باب الافق فصل نمبر 3)
- 4- حضورؐ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو گا جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ باب الافق فصل نمبر 3)
- 5- حضورؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر چیز کیلئے کفارہ بن جاتا ہے مگر قرض کیلئے نہیں۔ (مشکوٰۃ کتاب الجہاد)۔
- 6- حضورؐ نے فرمایا کہ ہر روز دو سو بار قل شریف پڑھنے والے کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 467 باب فضائل قرآن)
- 7- حدیث میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ (بہار شریعت حصہ 4 ص 106)
- 8- حضورؐ نے فرمایا کہ نفس مومن اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے۔ (شرح الصدور 245)

- 9- ایک شخص کا جنازہ لا یا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا اس پر قرض ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کہ میں ایسے شخص پر نماز پڑھ کر کیا کروں گا کہ جس کی روح قبر میں اس کے قرض کے

بدلے رہن ہے۔ (شرح الصدوص 245)

10۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے ایک شخص کو جنت کے دروازے پر صرف اس لئے روک دیا گیا ہے کہ اس پر قرض ہے تو اگر اس کے وارث چاہیں تو فدیدے کے کارے چھوڑالیں اور اگر چاہیں تو عذاب میں گرفتار رہنے دیں۔ (شرح الصدوص 245)

11۔ ایک شخص پر دو دینار قرض تھا جب وہ ادا کیا گیا تو تب قبر میں اس کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ (شرح الصدوص 246)

12۔ ایک شخص کا والد فوت ہو گیا تو حضور نے اسے فرمایا کہ تمہارا باب پ قرض کی وجہ سے مقید ہے اس لئے اس کا قرض ادا کرو۔ (شرح الصدوص 246)

13۔ ایک دفعہ دو آدمیوں نے ایک کنوں دیکھا کہ جس سے کچھ آوازیں آرہی تھیں تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص کچھ تختوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانچ ہوں نے پوچھا کہ تو جن ہے یا انسان تو اس نے کہا کہ میں انسان ہوں انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے تو اس نے کہا کہ انطا کیہ کا اور میں فوت شدہ سے ہوں لیکن قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے اس کنوں میں قید کر دیا ہے اور انطا کیہ کے لوگ میرا ذکر تو کرتے ہیں لیکن میرا قرض ادا نہیں کرتے چنانچہ وہ لوگ انطا کیہ گئے اور اس کا قرض ادا کر کے واپس آ کر دیکھا تو وہ شخص وہاں سے غائب تھا اور وہ کنوں بھی غائب تھا لیکن جب وہ رات کو سوئے تو وہ شخص خواب میں ملا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزاۓ خیر عطا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قرض ادا ہونے کے بعد جنت کے فلاں درجہ میں پہنچا دیا ہے (شرح الصدوص 246)

14۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے بھینس خریدی لیکن ابھی کچھ رقم ادا نہ کی تھی کہ مر گیا اور کچھ مدت بعد اپنے ایک عزیز کو خواب میں بہت پریشان حال ملا اور کہا کہ میں قرض کی وجہ سے

بہت تکلیف میں ہوں اور فلاں جگہ میرا اتنا زپور ہے مہر پانی فرمائ کر اسے نج کر میرا قرض ادا کر دو جب قرض ادا کیا تو خواب میں بہت خوش حال ملا اور شکریہ ادا کیا۔

تو برادر ان اسلام جہاں تم اپنے فوت شدہ سے ایصال ثواب یعنی ختم کے ذریعے بھلائی یعنی خیر خواہی کا اظہار کرتے ہو تو وہاں ان کا قرض بھی ادا کیا کرو کیونکہ یہ بھی فوت شدہ کیلئے ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔

15۔ ایک شخص دیہاتوں سے غلہ خریدتا تھا ایک دفعہ ایک عورت سے غلہ خریدا اور تو لئے کے وقت بی بی سے کہا کہ پاس آ جائیں اس نے کہا کہ تم خود ہی اپنے دین ایمان پر توں لو پھر حساب کرنے کے لئے بنا یا تو کہا کہ تم خود ہی اپنے دین ایمان سے حساب کرلو پھر غلہ اٹھانے کے وقت بلا یا کہ آ کر دیکھ لیں تو کہا کہ اپنے دین ایمان پر اٹھا لیں تو وہ شخص بہت حیران ہوا کہ یہ بی بی بی عجیب ہے کہ نہ تو لئے کے وقت قریب آ کر دیکھانہ حساب کیا نہ اٹھاتے وقت آ کر دیکھا پھر خود قیمت ادا کرنے کیلئے اس کے قریب آ بکر بیٹھ گیا تو اتنے میں اس بی بی کے سر سے تھوڑا سا کپڑا اتر گیا تو دیکھا کہ بی بی کے سر پر بال نہیں ہیں بلکہ صرف باریکی جھلی نظر آ رہی ہے اس کے متعلق بی بی سے پوچھا تو کہا بھائی میں قبر بے ہو کر آئی ہوں یعنی میں مر کر زندہ ہوئی ہوں واقعہ یوں ہے کہ میں مر چکی تھی اور مجھے نہلا کفنا کر قبر میں رکھ دیا گیا تو میری ایک لڑکی تھی جو مجھ سے قبل مر چکی تھی زندگی میں ایک دفعہ اس سے سر کے بالوں کو تیل لگانے کیلئے لیا لیکن واپس نہ کیا اور وہ مجھ سے علیحدہ تھی اور جب مجھے قبر میں رکھا تو وہ فوراً آگئی اور کہنے لگی کہ میرا وہ تیل دو جو تم نے لیا تھا میں نے کہا کہ اب میں کہاں سے دوں تو اس نے فوراً بالوں کو باکر کر اپنا کھینچا کہ میرے تمام بال ہی اکھڑ گئے اور ساتھ ہی میری چیخ نکل گئی اور مجھ پر مٹی ڈالنے والوں نے چیخ سنی تو ڈر گئے لیکن مٹی ہٹا کر مجھے زندہ دیکھ کر گھر لے آئے اس لئے اب میرا یقین پختہ ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب دینا

پڑے گا تو وہ شخص ڈر گیا اور کہا کہ مائی میرے پاس رقم کم ہے اس لئے میں کل آکر یہ غلہ لے جاؤ نگاہ اگلے دن آیا اور دوبارہ ایمانداری سے غلہ تولا مائی نے کہا دوبارہ کیوں تولتا ہے کہا میں بھول گیا تھا یعنی اس نے غلہ صحیح نہیں تولا تھا پوری رقم وی اور چلا گیا۔

**حکایت:** کسی جگہ ایک نیک عورت رہتی تھی جو کہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارہ کرتی تھی یعنی درزیوں کا کام کرتی تھی اور بہت نیک عورت تھی اور وہاں ایک کفن چور بھی تھا جس کا نام نصوحاتھا بی بی نے سوچا کہ جب میری موت آئی تو نصوحے نے آکر کفن اٹار لینا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاؤ گی تو میں اسے زندگی میں ہی کفن کا کپڑا دے دیتی ہوں تو اس نے اسے بلا کر بات کی اور کفن کا کپڑا دے دیا اور نصوحے نے وعدہ کر لیا کہ اب وہ اس کا کفن نہیں اٹارے گا تو جب وہ بی بی فوت ہو گئی تو نصوحے کی بیوی نے اسے کفن لانے کیلئے کہا تو اس نے تمام واقعہ سنادیا اور کہا کہ میں اس کا کفن نہیں اٹاروں گا تو اس کی بیوی ناراض ہو گئی تو اسے مجبور ہجاتا پڑا اور جب اس نے جا کر قبر کھو دی تو کیا دیکھا کہ وہاں وہ بی بی موجود ہی نہیں ہے بلکہ وہاں ایک باری یعنی چھوٹا سا دروازہ نظر آیا اسے کھولا اور اندر چلا گیا تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت باغی ہے جس میں ایک نہایت ہی خوبصورت پنگھوڑے پر یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور جنت کی حوریں اس کی خدمت میں موجود ہیں تو جب اس بی بی کی نظر اس پر پڑی تو کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورہ نہیں کیا تو یہ شرمندہ سا ہو گیا اور پھر جب اس نے اس بی بی کی طرف غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے کان کے ساتھ تقریباً ایک فٹ کے برابر ایک نہایت ہی زہریلا سانپ لٹک رہا ہے یعنی چمٹا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ سانپ کیوں آپ کے کان کے ساتھ لٹک رہا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹھے معلوم ہے کہ میں درزیوں کا کام کرتی تھی اور میری عادت تھی کہ جب کوئی کپڑا سی کر دیتی تھی تو سب لیکر کتر کپڑے کے ساتھ اس کے مالک کو واپس کر دیتی تھی کیونکہ وہی اس کا مالک تھا لیکن

ایک دن ایک کپڑا سی کر دیا تو اس سے جتنا کپڑا بچا تھا اسے واپس کرنا یاد نہ رہا تو آن یہ سائب اسی کے بد لے مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔

<p>بہت حاب اوکھرا بیٹا کیتا ذات الہی اوڑا ہی سپ چمڑا یا آکے تے میں وکھیا اس ٹالوں توبہ تائب کردا کردا قبروں باہر آیا جدمائی نے اے گل کر کے سمجھے حال سنایا جس دن پیش خداد رے ہوواں تے بری میرے نال ہووے</p>	<p>پھر نصوح تائیں اگوں ایہ گل دی مائی جیدی لیر میں لاہی تیسی اوہدے کے کپڑے سنالوں جدمائی نے اے گل کر کے سمجھے حال سنایا قبروں نکل روانہ ہو بنا بخوبی بھر روئے</p>
---	---

پھر اس نے پچھے دل سے توبہ کی اور یہ پیشہ ہی چھوڑ دیا۔ (قصص الحسنین 218)

حضرت حسان ابی سنان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو فرمایا کہ اچھا سلوک کیا ہے لیکن ایک سوئی کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے جو میں نے بطور ادھاری اور پھر واپس نہ کر سکا اور مر گیا۔ (غمینۃ الطالبین صفحہ 361)

حضرت عبدالرحمٰن کا ایک غلام جو کہ چالیس سال تک عبادت میں مصروف رہا مر نے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کہا اچھا سلوک کیا ہے لیکن مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ کیونکہ میں شروع شروع میں غلطی کی پیارش کا کام کرتا تھا۔ اور گرد و عبار کے چالیس قفیز (پیانہ) میرے ذمے نکلے (غمینۃ الطالبین صفحہ 361) حضرت عیسیٰ نے ایک مردے کو آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک بارکش (یعنی ٹھکنی) تھا ایک دن ایک شخص کی لکڑیاں اٹھا کر لئے جا رہا تھا اور میں نے راستے میں ان سے ایک لکڑی یعنی کانٹا توڑ کر خلاں کیا تو جب سے مرا ہوں تو مسلسل اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ (غمینۃ الطالبین صفحہ 361)۔ ایک شخص نے رقعہ لکھا اور اسے خٹک کرنے کے لئے مکان کی دیوار سے مشی لینے لگا تو خیال آیا کہ یہ مکان تو کرایہ کا ہے۔ پھر خیال آیا کہ کوئی حرج نہیں تو غیب سے آواز کہ غیر کی مٹی سے رقعہ خٹک کرنے کو آسان سمجھنے والا عنقریب جان لے گا کہ کل کس قدر طویل حساب دینا پڑے گا۔

(غمینۃ الطالبین صفحہ 361)

## حضرت امام جعفر صادقؑ کو ایصال ثواب کرنا یعنی کونڈوں کا مسئلہ

برادران اسلام آپ اہل بیت میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں اور آپ شہنشاہ اولیاء زابدیوں کے پیشوای عابدوں کے امام عاشقوں کے رہنماء امام اعظم کے پیرو مرشد سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے پانچوں بزرگ اور بارہ اماموں میں سے چھٹے امام ہیں۔

1- ایک دفعہ خلیفہ وقت آپ سے ناراض ہو گیا اور قتل کے ارادہ سے آپ کو طلب کیا لیکن خدا کی تدریت کہ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ وقت خود بخود تعظیم کیلئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کو بزرار آداب کے ساتھ تخت پر بٹھایا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے دامیں اور بائیں دو شیر تھے جو اپنی صاف زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے آپ کی بے ادبی کی تو ہم تجھے مارڈا لیں گے۔ (کشف الجوب ص 119)

2- اور ایک دفعہ پھر خلیفہ نے بری نیت سے آپ کو بلایا تو جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ نگے پاؤں آپ کے استقبال کیلئے آیا اور آپ کو ادب سے بٹھایا تو بعد میں جب اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک استابردا اژدها دیکھا کہ جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا محل کے اوپر تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے آپ کی بے ادبی کی تو میں تجھے اور تیرے محل کو نیست و نابود کر دوں گا۔ (بارہ امام 134)

برادران اسلام دنیا میں آپ کے لاکھوں عقیدت میں ہر سال 22 رب جب کو ایصال ثواب کے تھے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ جس کے متعلق بہار شریعت میں یوں ہے کہ ماہ رب جب میں بعض لوگ حضرت امام جعفر صادقؑ کو ایصال ثواب کے لئے پوریوں کے کونڈے بھرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ (بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 203)

سوال۔ اس تاریخ کونہ تو آپ کی پیدائش ہے اور نہہ ہی وصال بلکہ اس تاریخ کو تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا جس کی خوشی میں مخالفین نے حضرت امام جعفرؑ کے نام کے بہانے یہ طریقہ جاری کیا تھا اور آپ کا وصال 15 رب جب کو ہوا تھا اس لئے آپ کو 15 رب جب کو ایصال ثواب کرنا جائے۔

جواب 1۔ جناب ہیں بات تو یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے بلکہ مخالفین کے نزدیک بھی یہ جائز ہے رہا تاریخ کا مسئلہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے وصال شریف کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے مثلاً بعض کے نزدیک 10 ربیعہ اور بعض کے نزدیک 15 ربیعہ ہے اسی طرح کچھ 22 ربیعہ کہتے ہیں تو کس پر عمل کیا جائے تو جناب اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس بھی تاریخ کو ایصال ثواب کیا جائے درست اور جائز ہے۔ کیونکہ یہ عمل تاریخوں کا محتاج ہی نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو پہنچاؤ گے تو پہنچ گا ورنہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اصل مقصد تو ثواب پہنچانا ہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جن کو ہم ان کی تاریخ پیدائش یا وصال کے علاوہ ہی ایصال ثواب کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے دیکھئے شہنشاہ ولایت سرکار غوث اعظم کو گیارہ تاریخ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس تاریخ کو نہ تو آپ کی پیدائش ہے اور نہ ہی وصال تو کیا اب آپ کی خدمت میں اس گیارہ تاریخ کو گیارہ ہویں شریف کے نام سے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے کیا یہ آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے یا نہیں اور کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا یا نہیں۔

جواب 2۔ اب رہا مسئلہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ کا تو جناب اس میں بھی اختلاف ہے ایک جگہ یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال 4 ربیعہ کو ہوا ہے کتاب (امیر معاویہ ص 41) یہاں 22 ربیعہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال 15 ربیعہ کو ہوا ہے (شرح صحیح مسلم ج 7 ص 217)۔

بلکہ سورخیں نے تو آپ کی عمر کے متعلق بھی بہت اختلاف کیا ہے بعض کے نزدیک 48 بعض کے نزدیک 78 بعض کے نزدیک 80 بعض کے نزدیک 82 اور بعض کے نزدیک 88 سال ہے۔ (امیر معاویہ ص 41) لہذا اب کونے عدد کو تسلیم کیا جائے۔

جواب 3۔ اور جس طرح سائل شیعہ حضرات کی شرائط وغیرہ کی مثالیں پیش کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت ان شرائط کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں اس لئے یہ مثالیں ایک تک

کے برابر بھی کچھ وزن نہیں رکھتیں کیونکہ اہل سنت حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ یعنی دونوں بزرگوں کی شان کو سلام کرتے ہیں اور کسی ایک کے بھی دشمن یعنی مخالف نہیں ہیں بلکہ ان دونوں بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ان کی نیت بھی نیک ہے ہاں اگر کوئی شیعہ کی شرائط پر عمل کرتا ہے تو اسے صرف ان شرائط سے ہی منع کرنا چاہیے۔ نہ کہ بالکل ہی سرکار امام جعفر صادق کی پارگاہ میں ثواب پہنچانے سے ہی منع کر دیا جائے۔ دیکھیں بعض دفعہ مسجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو مسجد میں آنے سے ہی نہیں روک دیا جاتا اور نہ ہی مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور کنویں میں کتا گر جائے تو کتنے کو نکالا جاتا ہے نہ کہ کنویں کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔

جواب 4۔ ہاں اہل سنت کو یہ ضرور چاہیے کہ شیعہ کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب میں شامل کر لیا کریں۔

(سوال) جی 22 ربکوئے تو آپ کی وادت ہے نو فات ہے۔ اس لئے اس تاریخ کو فاتحہ نہیں دلائی چاہیے۔ جواب۔ جناب ہم نے ایصال ثواب کے بیان میں جتنی بھی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی ایسی حدیث دکھاریں کہ جس میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا ہو کہ تمہارے والدین جس تاریخ کو پیدا ہوئے یا فوت ہوئے صرف اسی تاریخ کو ثواب پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ نہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ تمام سال گیارہویں شریف دلانا اور میلاد منانا اور تمہارے یہ قل ساتے دسویں بیسویں اور چالیسویں وغیرہ کے ختم دلانا کیا یہ پیدائش کے دن ہیں یا وفات کے تو جناب اگر ان کو یہ ثواب پہنچ سکتا ہے تو پھر حضرت امام جعفر صادق کو بھی پہنچ سکتا ہے۔

(سوال) جی یہ حضرت امام جعفر صادق کا ختم شیعہ حضرات نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں دلایا تھا۔ جواب۔ جناب اس کے متعلق ذرا غور سے دیکھیں تو یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے مثلاً دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال 60 ہجری ہے (خطبات محرم ص 314۔ امیر معاویہ ص 41)

حضرت امام حسین کی شہادت 61 ہجری ہے (خطبات محرم ص 428)

حضرت امام زین العابدین کا وصال 95 ہجری ہے (بارہ امام ص 83)

حضرت امام باقر کا وصال 114 ہجری ہے (بارہ امام ص 99)

حضرت امام جعفر صادق کا وصال 148 ہجری ہے (بارہ امام ص 125)

تو جناب ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال 60 ہجری کو ہوا یعنی یزید کی حکومت اور اور واقعہ کر بلا سے پہلے اور حضرت امام جعفر صادق کا وصال 148 ہجری کو ہوا یعنی حضرت امیر معاویہ سے 88 سال بعد یعنی دو کم نو سال بعد تو کیا حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں نے دو کم نو سال بعد آپ کی وفات کی خوشی کرنی تھی۔ تو جناب یہ تو دوسروں کو پاگل بنانے والی بات ہے مثاً دیکھیں کہ صدر ایوب یا بھنو صاحب اور رضیاء الحق کوفوت ہوئے آج کئی سال گزر چکے ہیں اور مخالفین ان کی وفات کی خوشی میں آج مٹھائیاں وغیرہ تقسیم نہیں کرتے بلکہ یہ وقت طور پر سب کچھ ہوا لیکن آج نہیں اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو مخالفین اسی وقت خوشیاں مناتے ہیں سینکڑوں سالوں کے بعد نہیں مثاً دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا وقت ایک تھا اور حضرت علیؑ کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور پھر ان کے بعد حضرت امام زین العابدین اور ان کے بعد حضرت امام باقر اور ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق کا وقت ہے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے بعد آپ کا بیٹا یزید پھراں کے بعد اس کا بیٹا یعنی 88 سالوں میں دونوں طرف کئی پیشیں گز رکھیں تو کیا اب مخالفین نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی منانی تھی اور وہ بھی چھپ کر ہی منانی تھی ہاں اگر چھپ کر بھی منانے تو اس وقت منانے دو کم نو سال بعد چھپ کر منانے کا کیا مطلب ہے تو جناب ایسے فضول ناکارہ اور من گھرست قصے کو ہنم نہیں مانتے۔

(سوال) جی 22 رب کو ختم دلانا یہ شیعہ حضرات کا طریقہ ہے۔ اور وہ ہی اسے زیادہ طول دیتے ہیں اس لیے ختم نہیں دلانا چاہیے کیونکہ یہ نجائز ہے۔

جواب۔ جناب ہمارے جن بزرگان دین نے اسے جائز کہہ کر اس پر عمل کی اجازت دی ہے۔ کیا وہ شیعہ تھے مثاً دیکھیں۔

- (۱) علیحضرت کے خلیفہ و شاگرد مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت
- (۲) علیحضرت کے خلیفہ و شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی مصنف تفسیر خزان العرفان
- (۳) حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خاں نعمی مصنف تفسیر نور العرفان شاگرد و مرید سید نعیم الدین مراد آبادی
- (۴) علیحضرت کے خاندان کے چشم و چراغ مولانا محمد توصیف رضا خاں صاحب
- (۵) علیحضرت کے آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین اور آپ کے دارالعلوم منظراً اسلام بریلی کے مہتمم مولانا سجاف رضا خاں صاحب۔

(۶) محدث اعظم پاکستان مولانا ناصردار احمد صاحب فیصل آبادی

(۷) مفتی اعظم حضرت مولانا سید ابوالبرکات احمد لاہور

(۸) شیخ الحدیث علامہ عبدالمحضی اعظمی صاحب

(۹) خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد شفیع اوکاڑوی صاحب

(۱۰) حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب گوجرانوالہ

(۱۱) شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب فیصل آبادی

(۱۲) مفتی محمد خلیل خاں صاحب۔

(۱۳) مفتی محمد اعظم صاحب صدر مدرس دارالعلوم مظہر اسلام بریلی

(۱۴) غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب

(کونڈوں کی شرعی حیثیت ص 22 از مفتی عبدالجید خاں صاحب رحیم یار خاں)

اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ شیعہ حضرات تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو بھی جانتے ہیں اور حضرت علیؑ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی محبت میں محفلین کرتے نظرے لگاتے اور اپنی تقریروں اور تحریروں میں ان کی تعریفیں کرتے اور دس محرم کو محفلین کرتے تبرک تقسیم کرتے کلمہ نماز درود پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سب سچھے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ سب سچھے شیعہ حضرات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ

قرآن پاک کی زیریں زبریں یعنی اعراب وغیرہ تاج بن یوسف نے لگوائے تھے جو کہ بہت بڑا ظالم تھا لہذا اس سے بھی تجوڑ دینا چاہیے اور حضور ﷺ کے میلاد پر ابوالعبّاس نے بھی خوشی منانی تھی جو کہ بہت بڑا کافر تھا بلکہ مخالفین تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بادشاہ نے یہ میلاد منایا تھا وہ بہت بڑا کھلنڈ را اور بدعتی آدمی تھا لہذا پھر میلاد کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور دیکھیں کہ حضور ﷺ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھ کر خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا تو کیا پھر یہ روزہ رکھنا نجائز تھا ہرگز نہیں اور اسکے متعلق حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو جائز کام غیر مسلموں سے جائز صورت میں مسلمانوں میں پھیل جائیں تو انہیں جائز ہیں کہا جائے گا پس ایسی صورت میں اسلام سے منسوب فرقوں سے خالص مسلمانوں میں آنے والے مباحث امور بطریق اولیٰ جائز قرار پائیں گے۔ (کونڈوں کی شرعی حیثیت ص 44 فیصلہ بفت مسئلہ ص 8)

### ﴿بائیس 22 ربیع سے کونڈوں کی مناسبت﴾

ستر (70) صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے جلیل القدر تابعی حضرات طاؤس فرماتے ہیں کہ فوت شدہ کا قبروں میں سات دن تک امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں لوگ (یعنی صحابہ کرام و تابعین) فوت شدہ کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانے کو مستحب اور کارث ثواب سمجھتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد آپ کے متعلقین نے بھی سات ایام تک لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ کو ایصال ثواب کیا اور حضرت امام جعفر صادق کا اوصال 15 ربیع کو ہوا ہے تو پندرہ اور سات بائیس (22) ہوئے اور پھر عموماً ہر پروگرام کے آخری دن کو بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس سے یہ امر واضح ہے کہ یہ ایصال ثواب بھی 22 ربیع کو اہتمام کے ساتھ کیا گیا جو کہ بائیسویں ربیع سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا اور یہی قرین قیاس بھی ہے (کونڈوں کی شرعی حیثیت ص 50)

ہاں جس شخص کو 22 تاریخ پر اعتراض ہے تو وہ 15 تاریخ کو ختم دلایا کرے لیکن جو نہ تو خود 22 ربیع کو ثواب پہنچائے اور نہ 15 کو بلکہ 15 ربیع والوں کو روکے تو پھر اس سے بڑھ کر حضرت امام جعفر

صادق کا مخالف کون ہے کہ جو خود تو حضرت امام جعفر صادق کو ثواب پہنچاتا نہیں ہے اور اُنکا ثواب پہنچانے والوں کو روکتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا پھرتا ہے لہذا اتنی تفصیل کے بعد بھی جو شخص حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ آپ کے اور آپ کے اس تحفے کے درمیان رکاوٹ بنانا چاہتا ہے جو کہ آپ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست کو تکلیف پہنچائے گا تو میں اس کے لئے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ (مشکوٰۃ) اور اس مسئلہ کے متعلق مزید دیکھیں کتاب (کوندوں کی شرعی حیثیت از مفتی عبدالجید خاں رحیم یار خاں ناشر کاظمی کتب خانہ رحیم یار خاں)

## میلے اور عرس کرانا

حضرات گرامی یہ عرس بھی اصل میں بزرگان دین کو ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں قرآن خوانی اور تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ اگرچہ بذات خود جائز تو ہے کہ جس کے متعلق علمائے ذین نے بہت سچھ لکھا ہے لیکن نہایت ہی افسوس اور درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض آستانوں کے گدی نشینوں نے اس عرس کو میلے میں تبدیل کر کے اللہ کے ولیوں کے آستانوں کو شیطانوں کے اڈے اور برائیوں کے مرکز اور کنجھر خانے بناؤ یا ہے تواب آئیے اور دیکھئے کہ ان میلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ان بزرگوں کی عقیدت کے بہانے جس بے دردی بے غیرتی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ان میلوں میں قرآن و احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے یعنی قرآن و احادیث کی حدود کو توڑا جاتا ہے۔ شاید اس کی مثال کہیں اور کم ہی ملتی ہو گی مثلاً سب نے پہلے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو پردہ کرنے کے متعلق فرماتا ہے۔

وَقِيلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضِضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الَّذِي يَعْنِي مُسْلِمَاتٍ عَوْرَتُوْنَ كُوْحْكُمْ دُوْ

کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور وہ اپنا بنا و سندگار نہ دکھائیں مگر جتنا کہ خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال کر رکھیں۔ کچھ آگئے یوں ہے کہ عورتیں اپنا پاؤں بھی زمین پر اتنی زور سے نہ ماریں کہ انکا چھپا ہوا سندگار جانا جائے۔ (یعنی انکے زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سن سکے۔ (پ 18 ع 10 آ 31)

لیکن اب حال یہ ہے کہ شاید عورت میلے میں آ کر یہ سمجھتی ہے کہ نہ جانے پھر کبھی یہ موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے اب تو دل کھول کر لوگوں کو اپنا آپ یعنی اپنارنگ ڈھنگ زیب وزینت اور حسن و جمال دکھالوں پھر قسمت یا نصیب تو پھر کیا ہے خوب میک اپ کیا ہوا ہے دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے چھاتی نکالی ہوئی ہے اور خوب آنکھ پٹکالگار ہی ہے اور پیروں کے درپار پر میلہ دیکھنے چاہی ہے بلکہ ایک شاعر نے بھی اپنے لفظوں میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

گورے مکنوں سجا کے اشکا کے لاٹی گلاں اتے چنگی طرح لا کے اج میک اپ کٹ مکا کے نیناں دے تیر چلا کے دھرتی ہلا کے نہ ذرا شرم اکے اج میلہ دیکھن آئیاں کڑیاں لا ہور دیاں ارے جس غیرت مند باپ کی جوان بیٹی اور جس غیرت مند بھائی کی جوان بہن ایسے بھرے میلوں میں جا کر پردے کا خیال نہیں کرتی بلکہ اپنی مرضیاں اور من مانیاں کرتی ہے اور آوارہ بکریوں کی طرح ادھر ادھر ملکتی پھرتی ہے تو اسے شرم میں ہی ڈوب کر مر جانا چاہئے۔

نہ شرم رسول نہ خوف خدا  
اللہی دے ان کو بھی کچھ تو حیا

اڑے اس گئے گزرے دور میں تو عورت کو نماز پڑھنے کیلئے مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے جو کہ خانہ خدا ہے اور یہ دہاں جا رہی ہے جہاں ہر قسم کے لوگ یعنی اچھے بُرے پُچھے غنڈے نشی بھنگی، چرسی ذائقی شرابی اور بدمعاش وغیرہ یعنی ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس

کے متعلق حدیث میں ہے۔

حدیث۔ عن ابی هریۃ ان رسول لعن زورات القبور۔ یعنی حضرت ابو ہریۃؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کو جائیں۔ (مشکوٰۃ باب زیارت قبور ج 1 ص 378)

وقال بعضهم انما کرد زیارة القبور للنساء یعنی بعض کہتے ہیں کہ آپ نے عورتوں کی زیارت قبور کو ناپسند فرمایا ہے ان کے صبر کی کمی اور جزع فزع میں زیادتی کی وجہ سے (مشکوٰۃ زیارت قبور ج 1 ص 378)

۱۔ علیحضرت فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے (فتاویٰ رضویہ ج 8 ص 537)

۲۔ عورتوں کو مقابر اولیاء و مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے (ص 536)

۳۔ عورتوں کو زیارت قبور منع ہے حدیث میں ہے لعن اللہ زائرات القبور۔ یعنی اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جائیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 537)

۴۔ حضور فرماتے ہیں لعن اللہ ذوارات القبور۔ یعنی قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (ص 538)

۵۔ عورتوں کو قبور پر یہی ہی نہیں جانا چاہئے نہ کہ مجمع (کثیر) میں بے حجاباً نہ اور تماشے کا میلہ کرنا اور پیانو وغیرہ بخوانا یہ سب گناہ اور ناجائز ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 537)

۶۔ عورتوں کو قبروں پر جانے سے منع کیا جائے۔

(بہار شریعت ج 4 ص 132) (انور الحدیث ص 19)

لہذا ہر ایک ماں باپ کو چاہئے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو اور خاوند اپنی بیوی کو اور

پیر اپنی مریدوں کو ایسی جگہ جانے سے سختی سے روکیں یا پھر سختی سے پردہ کرنے کا حکم دیں اور اس کے علاوہ بعض جگہ میلہ میں دیکھا گیا ہے کہ قوالی کے دوران مرا داور عورتیں آمنے سامنے بیٹھے آنکھ پٹکالگار ہے ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوبی بن لڑن کر مددوں کے سامنے ڈٹ کر بیٹھتی ہیں تاکہ دیکھنے والوں کی نظریں ان پر خوب اچھی طرح پڑ سکیں اور قرآن فرماتا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں (پ 18 ع 10) لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل المثل ہوتا ہے اور بعض جگہ پیر صاحب مددوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چند خوبصورت نوجوان لڑکیاں اسکی ٹانگیں دبارہ ہوتی ہیں اور پیر صاحب خوبی خوبی مسکراتے ہوئے میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض جگہ ڈھول کے سامنے ان داڑھیے لڑکے خوب ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ڈائنس کر رہے ہوتے ہیں۔

1- جن کے متعلق حضرت بسفیان ثوری فرماتے ہیں کہ عورت کے ہمراہ ایک شیطان ہوتا ہے لیکن نو خیز اور حسین لڑکے کے ساتھ اٹھا رہ شیطان ہوتے ہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 135 مکافحة القلوب - 159)

جناب یہ تو عام حالات کی بات ہے تو ناچتے وقت انکی کیا کیفیت ہوگی۔

2- حضرت عقبہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ نصف چہرہ سیاہ پڑچکا ہے تو کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ طالب علمی کے وقت میں ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا تو مرنے کے بعد فرشتے مجھے جنت کی طرف لیکر جا رہے تھے تو جہنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاشتے ہوئے کہا کہ بس یہ تیرے ایک نظر دیکھنے کی سزا ہے اور اگر تو اس لڑکے کو زیادہ دیکھتا تو میں بھی تجھ کو زیادہ تکلیف پہنچاتا۔ (تذکرۃ الاولیاء ص 44)

3- حضرت جبیب عجمی کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے لیکن اس میں ایک سیاہ داغ ہے پوچھنے پر فرمایا کہ ایک دفعہ میری نظر ایک لڑکے پر پڑگئی بس اسی کے سبب آگ لائی گئی اور اس کا اثر قائم ہو گیا اور مجھے کہا گیا کہ اے جبیب! بھی تو تم نے ایک نگاہ ڈالی تھی اگر اس سے بڑھ جاتے تو تمہارے داغوں کو بھی بڑھا دیا جاتا۔

(نزہت الجالس ج 1 ص 546)

روایت میں ہے کہ جس شخص نے بھی کسی کوشہوت کے ساتھ بوسہ دیا تو وہ پانچ سو سال جہنم میں جلے گا۔ (مکاففۃ القلوب 159)

اور بعض جگہ صاحب مزار کو سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ حضور نے یہود کیلئے بدعا فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برپاد کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناؤالا۔ (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 75)

اور اس کے علاوہ کسی جگہ تو حضور نے ان قبروں کو سجدہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور کہیں فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہونگے اور کہیں قبر کو سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 74)

بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر میں (خدا کے سوا کسی غیر کو) سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔

(مشکوہ ج 2 ص 98 باب عورت کے حقوق)

جناب ثابت ہوا کہ احادیث میں تو انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک عام بزرگ کی قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قبر کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 84)

یعنی قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کفر ہے۔ (انور الحدیث ص 191) اور بعض جگہ قوالی کی بجائے بے شرمی والے گائے گائے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہ ناچنے والیوں کے شیطانی اکھاڑے خوب گرم ہوتے ہیں یعنی ہم ان آستانوں پر کنجرا اور کنجربیاں ملا کر نچاتے ہیں اور ہم نے ان آستانوں کو کنجراخانے بناؤالا ہے۔

حضورؐ نے فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسيقی (یعنی گانے بجانے والا ساز و سامان وغیرہ) کو توڑنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے۔

(شرح صحیح مسلم ج 2 ص 681)

حضورؐ فرماتے ہیں کہ مجھے باجوں گاجوں اور مزامیر وغیرہ کو مٹانے یعنی توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ ج 2 ص 182)

ایک روز آپؐ نے بانسری کی آواز سنی تو آپؐ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور بہت دور جا کر نکالیں جہاں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

(شرح صحیح مسلم ج 2 ص 683 مشکوٰۃ ج 2 ص 417 باب شعر)

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو مزامیر شیطانی سے دور رکھتے تھے ان کو تمام لوگوں سے الگ کرو فرشتے ان کو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو میری تسبیح اور تمجید سناؤ پھر فرشتے ان کو ایسی آواز میں حمد اللہ سنائیں گے کہ پہلے انہوں نے کبھی ایسی آواز نہ سنی ہوگی۔

(شرح صحیح مسلم ج 2 ص 681)

اور کہیں ڈھول اور واہیات اور شیطانی فعلوں کے ساتھ اپنی محفل کو خوب گرم کیا ہوا ہوتا ہے اور کہیں رات کے وقت گانے بجانے والیاں شیطانی رنگ رلیوں میں حد کر دیتی ہیں اور کہیں لوگوں

کے سامنے ہی شرابیں پی جا رہی ہوتی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے۔  
یا ایها الذین آمُوا نَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْخَ - اے ایمان والو شراب جوابت اور

پانے ناپاک اور شیطانی کام ہیں پس ان سے بچوتا کر تم فلاح پاؤ۔ (پ 7 ع 2 آ 90)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں فرماتا اور اس کو دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 181 باب شراب) اور خوف خدا سے شراب چھوڑنے والے کو جنت کے حوضوں سے پلایا جائیگا۔ (مشکوٰۃ ج 1 ص 183) یعنی ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ شراب پینے والوں کو دوزخیوں کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ پلائے گا ارے شراب پینے والوہم کہتے ہیں کہ دوزخیوں کے جسم کی پیپ کی بدبو اور تکلیف کے متعلق تو کیا پوچھتے ہو ذرا تم اپنے دنیاوی جسم کے کسی پھنسی یا پھوٹے سے نکلی ہوئی پیپ کا صرف ایک ہی گھونٹ پی کر دیکھ لو کہ کیا مزاح ہے اور پھر دوزخیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ پینے کیلئے تیار ہو جائیں اور یا پھر آئندہ شراب پینے سے توبہ کر لیں۔

اور کہیں گانے بجائے والوں کو گلہ چھاڑ چھاڑ کر ہانگرے مار مار کر داد دے رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھنگی چرسی اور نشی اپنی من مانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث میں ہے کل مسکر حرام یعنی حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ہرنشہ اور چیز حرام ہے۔ (مشکوٰۃ باب شراب ج 2 ص 180)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عہد ہے کہ جو شخص بھی نشہ اور چیز پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے زخموں کا پیپ اور پسینہ پلائے گا۔

(مشکوٰۃ باب شراب ج 2 ص 180)

اور بعض جگہ تو ایسی بے غیرتی اور بے حیائی ہوتی ہے کہ ایک شریف الطبع اور غیرت مندان ان وہاں جانے سے ہی شرما تا ہے مثلاً مجرہ کہ جہاں خوبصورت اور حسین و جیل نوجوان لڑکیاں

مردوں کے سامنے ناج رہتی ہوتی ہیں۔

جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے گانے والی عورت کے پاس بیٹھ کر گانا سنات تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پکھلا ہوا سیسہ (جو ایک قسم کی دخالت ہے) ڈالا جائے گا۔ (شرح صحیح مسلم ج 2 ص 687)

اسی طرح حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی گانے والی عورت کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اس کے کانوں میں پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

(شرح صحیح مسلم ج 2 ص 680)

اور اسی طرح لکھی ایرانی سرکس میں خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکیوں کا اپنا اپنا فن دکھانا اور مردوں کا ان کے جسموں کا موتا پایا پتلائیں اور ان کے رنگ روپ اور نقش و نگار اور ان کے اچھلنے کو دنے کو دیکھنا یہ سب قرآن و احادیث کے خلاف ہے اور اسکے علاوہ میلوں میں جو اکھیلنا مٹلا کرے والا جو اپنے والا جواب ہے نہ مبھیری والا جواب اور کبھی والا جواب جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے۔

**يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْخَ - اے ایمان والوشاب اور**

جوابت اور زیانے ناپاک اور شیطانی کام ہیں پس ان سے بچو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ (پ 7 ع 2)

اے خود کو مسلمان اور حضورؐ کا عاشق اور ولیوں کا محبت غلام اور ملک کھلوانے والو کیا ان ولیوں نے تم کو یہی سبق دیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے ہی ڈیرے پر قرآن و احادیث کی حدود کو خوب بے دردی کے ساتھ توڑنا ارنے کچھ تو شرم و حیا سے کام لوارے تم ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر کس نیت سے آتے ہو کیا اللہ اور نبی کو راضی کرنے کیلئے آتے ہو یا قرآن و احادیث کی حدود کو توڑنے کیلئے آتے ہو یا شیطانی حرکتوں سے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کیلئے آتے ہو یا خلاف

شرع یعنی حرام کاموں کے ساتھ شریعت کی حدود کو توڑ کر کمائی کرنے کیلئے آتے ہوا اور پھر یہ سب کام اللہ کے ولی کے ڈیرے پر واہ بجان اللدارے آج کے مسلمان کیوں تیری عقل ماری جا چکی ہے خدا کرے اللہ کے ولیوں کا مقام تیری سمجھ میں آجائے ارے کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے تو اپنی زندگیاں قرآن و احادیث کے مطابق گزار کر اور اپنی مرضیوں اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر بلکہ تباہ و بر باد کر کے اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول گوراضی کیا ہے ارے جا شہنشاہ بغداد سے پوچھ کہ انہوں نے کیسے خدا کو منایا ہے ارے جا پوچھ ولیوں کے بادشاہ سرکار داتا علی ہجویری سے کہ انہوں نے کیسے خدا کو منایا ہے ارے جا پوچھ سرکار بابا فرید سے خواجہ اجمیری سے حضرت سلطان باہو سے اور باقی اولیائے کرام سے کہ انہوں نے کیسے جنگلوں میں خاک چھان کر خدا کو منایا ہے اور تم ان کے ایسے ہمدرد ثابت ہوئے ہو کہ ان کے بعد ان ہی کے ڈیروں پر قرآن و احادیث کی حدود کو نہایت بے دردی اور بے حیالی کے ساتھ توڑنے لگے ہو واہ ارے واہ اے گدی نہیں تو تم نے اپنے ان بزرگوں کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے ارے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس میلہ کرانے کا یہی مقصد تھا کہ میلہ کے دن قرآن و احادیث کی حدود کو خوب بے دردی کے ساتھ توڑا جائے ہاں ہاں اگر یہی مقصد تھا تو پھر ہزار لعنت ہے ایسے میلہ پر اور اگر اس میلہ کرانے کا مقصد صاحب مزار کو ایصال ثواب اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا تو پھر اس میلہ کو عرس میں تبدیل کریں اور دربار پر ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے شرعی حدود کو نہ توڑا جائے بلکہ ان کی حفاظت کی جائے اور ہاں یہ اللہ کے ولی تو خود شریعت کی مخالفت کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ (ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ص 112)

اور شریعت کا مذاق اڑانے والوں پر تو سرکار داتا سخن بخش اور سرکار غوث اعظم بھی ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں۔ (ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ص 113)

ہاں جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے اگرچہ وہ ہواؤں میں بھی اڑے اور پانی پر بھی چل کر دکھائے تو وہ لعنتی ہے۔ (الیصال ثواب کی شرعی حیثیت صد 113)

بلکہ شعیب الاولیا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میرے نزدیک استنجا کے ڈھیلے کے برابر بھی کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ (خطبات محرم۔ 504)

حضرت بازیزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا پر چار ذانوں پیٹھا ہوا ہے تو اس سے وہو کہ نہ کھانا کہ جب تک تم یہ نہ دیکھو لو کہ فرض واجب مکروہ حرام اور شرعی حدود کی محافظت اور آداب شریعت میں کیا ہے اور اسی طرح سیدنا ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو علی رودباری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مزامیرستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے لئے حلال ہے کیونکہ میں ایسے درجہ تک پہنچ گیا ہوں کہ احوال کے اختلاف کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا فرمایا ہاں وہ پہنچا ضرور ہے مگر جہنم تک۔ (رسالہ قشیریہ۔ تصوف و طریقت 93)

اس لئے چاہئے کہ ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جو گدی نہیں ہیں پہلے تو وہ خود قرآن و احادیث کے رنگ میں رنگے ہوں اور شریعت کی پابندی کریں اور پھر اپنے مریدوں اور مریدنیوں کو اس پرختی سے عمل کرنے کا حکم دیں ہاں ہاں خبردار سن لو جو قرآن و احادیث کی حدود کو توڑنیکی خود اجازت دیتا ہے اور شریعت کی مخالفت کراتا ہے وہ رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے اگرچہ وہ ہوا میں بھی اڑ کر دکھائے کیوں کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کے گھر میں آ کر بغیر اجازت کام کر سکے اور تم نے تو ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں کو شیطانوں اور برائیوں کے اڑے اور مرکز بناؤ الاء ہے۔

اس لئے نہیں کرانے والوں کو چاہئے کہ ان میلوں کو عرسوں میں تبدیل کریں اور عرس کے دنوں میں چند نہایت جوشیے بہادر اور نذر نوجوانوں کی ایک سیکورٹی بنایا کریں۔ تا کہ جو بھی آستانہ

پر خلاف شرع کام کریں یہ ان کوختی سے روکیں اور اس کے علاوہ علماء دین کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک ہو کر اس کی طرف توجہ دیں اور ان اولیاء کرام کے آستانوں پر خلاف شرع کام کرنے والوں کی وعظ و نصیحت اور درس و مدریں میں خوب ڈٹ کر مذمت اوزمیالفت کریں۔

تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں  
اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں

حضرات گرامی نہایت ہی افسوس ناک بات ہے کہ اس وقت ہم برائی میں قرآن و احادیث کی حدود کو روندے کیلئے کس قدر نذر اور دلیر ہو چکے ہیں کہ خدا کی پناہ مثلاً دیکھئے کہ انہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جو کنجراخانے اور بے غیر تیار ہوتی ہیں اگر ان کو روکنے کیلئے کوئی شخص قدم اٹھاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں۔

= ایک دفعہ حضرت میاں میر صاحب کے عرس پر شیخ العلما، قطب دوراں شہنشاہ ولایت سرکار میاں محمد حقی سیفی آستانہ عالیہ راوی ریان شریف والے بھی تشریف فرماتے تھے اور نعمتوں اور تقریروں کا سلسلہ شروع تھا کہ ڈھول ڈھمکے اور ناچنے گانے بجانے والے اندر آگے تو سرکار میاں مبارک صاحب نے انہیں روکا تو وہ لڑائی جھگڑے پر قتل گئے اور سرکار پر حملہ کرنے کیلئے تقریباً دو تین سو آدمی آگے بڑھے تو جو سرکار کے باڑی گارڈ تھے۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تو پھر تمام حملہ کرنے والوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔

2۔ اور اسی طرح ایک ساتھی کہ جن کے والد صاحب ایک میلہ کراتے تھے کہ جس میں تقریباً ہر قسم کی عیاشی وغیرہ ہوتی تھی مثلاً گانا، بجانا، ناچنا، بھنگڑا ڈالنا، نقالوں، شرابوں اور نشی لی گئے گھفلوں وغیرہ کا دور ہوتا تھا تو جب یہ سرکار میاں مبارک صاحب کے مرید ہوئے تو انہوں نے ان خلاف شرع کاموں کو روکنا چاہا تو اپنے بے گانے بلکہ رشتہ دار بھی ناراضی ہو گئے اور طرح

طرح کی دھمکیاں اور طعنے دینے شروع کر دیئے اور اس کے خلاف ہو گئے کہ تو بڑا مولوی کہاں سے آگیا ہے یہ طریقہ تو ہمارے بڑوں سے چلا آتا ہے اور کہنے لگے کہ میلوں میں تو ایسے کام ہی یعنی، شرابوں اور ناج گانوں کی محفلیں وغیرہ، ہی اچھی لگتی ہیں اور رشتہ داروں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے رشتہ داروں کی بات بھی نہ مانی تو پھر تم اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاؤ گے اُنکی شادیاں کہاں کرو گے لہذا اگر تم نے ہمارے اس کام میں مداخلت کی تو اس کا انجام اچھا نہ ہو گا ہمارے بھی پیر ہیں تم نے کوئی نیا ہی پیر تلاش کر لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ برا بھلا کہا اور کہا کہ آج کے بعد ہماری اور تمہاری رشتہ داری ختم ہے تو۔ کہا کہ ختم ہے تو ختم ہی سبی یہاں تک کہ اس موضوع پر کافی بحث مبارکہ ہوتے رہے لیکن میہا اپنی بات پڑھنا رہا حتیٰ کہ اس کے گھروالوں نے اس کو مارا پڑا اور گھر سے نکال دیا تو وہ ایک سال تک گھر سے باہر رہا آخر ایک سال کے بعد جب میلے کا وقت آیا تو والدہ نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا اسے جا کر لاو جب اسے لینے گئے تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر جاؤں گا کہ میلہ میں قرآن و احادیث یعنی شرعی حدود کو نا توڑا جائے بلکہ شرعی حدود کی حفاظت کی جائے تو انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا تو آکر میلہ میں ذکر و اذکار کی محفل کرائی اور بعد میں اعلان کیا کہ انشاء اللہ آمندہ بھی ہر سال اسی طرح کی محفلیں ہوا کریں گی اور آج سے ہر قسم کی بری محفلیں بند ہیں تو اس پر اس کے گھروالوں نے اپسے مارا کہ تو نے یہ اعلان کیوں کیا ہے۔

### القصہ مختصر:-

ہزار تکلیفوں، مشکلوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔

حضرات - جن حضور کے عاشقوں میں ابھی تک غیرت کا کچھ مادہ باتی ہے ہم ان پر پوچھیں کہ کیا یہ ذوب مر نے کام قائم نہیں ہے کہ لاکھوں کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی ہمارے الٰہ اللہ کے

دليوں کے آستانوں پر کنجرياں اور کنجر ناج رہے ہیں شرائیں پی جاتی ہیں اوز شرعی حدود کو فخر و تکبر کے ساتھ توڑا جا رہا ہے بلکہ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ ادا کارائیں تو درباروں پر نعمتیں پڑھتی ہیں۔ ہاں جناب، بہت خوب کیونکہ تمہارے لئے نعمت خواں حضرات کی نعمتوں میں ہدایت نہیں علماء کے واعظ و نصیحت میں ہدایت نہیں ذکر و اذکار اور قرآن خوانی کی محفلوں اور قرآن و احادیث کے بتائے ہوئے طریقے میں ہدایت نہیں ہاں اگر تمہارے لئے ہدایت ہے تو صرف اور صرف ان گانے بجانے والیوں کے ناج گانے میں ہے شیطانی ساز اور شیطانی آواز میں ہے کہ جن سے اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

اگر نہیں ہے بے غیرت دل تیرا  
تو پھر پوچھ اپنے دل سے کہ کیا یہ طریقہ رسول ﷺ کا ہے

### ﴿حدیث کی آڑ میں قرآن کی مخالفت﴾

حضورؐ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کو جائیں۔

(مشکوٰۃ ج 1 ص 378)

لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ زیارت قبور کی اجازت والی حدیث سے پہلے تھا اب نہیں ہے اور وہ حدیث یہ ہے حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کرو۔ (مشکوٰۃ باب زیارت قبور ج 1 ص 776)

لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں عورت کا بھرے میلہ میں بغیر پردہ کے مردوں میں گھومتے پھرنا اور مردوں کو اپنارنگ ڈگ کھانا کیا یہ شریعت میں جائز ہے ارے جائز ہونا تو در کنار یہ شریعت کے حکم کے مطابق بالکل حرام ہے ہاں اگر پردہ میں رہیں تو علیحدہ مسئلہ ہے اور

میلہ میں پرده میں رہتا کون ہے اصول الشائی میں ہے کہ قرآن مجید کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کے مقابلہ میں اگر خبر واحد یا قیاس آجائے تو اگر دونوں پر عمل ممکن ہو اس شرط کے ساتھ کہ قرآن کے خاص میں تغیر واقع نہ ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا والا یعنی عمل بالکتاب ویترک ما مقابلہ یعنی اگر ایسے نہیں ہے تو پھر صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا اور جو اسکے مقابلہ میں ہے اسے ترک کر دیا جائیگا یعنی چھوڑ دیا جائے گا۔ (اصول الشائی ص 6)

اب دیکھئے کہ ایک طرف تو قرآن و احادیث عورت کو پرده کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف میلہ میں اس پرده کی وجہیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو کیا اب میلہ میں قرآن کے اس خاص پر عمل ہو رہا ہے یا اس کی مخالفت تو کیا اب قرآن کے اس حکم کو توڑنے کی اجازت یہ زیارت قبور والی حدیث دے سکتی ہے۔

ہرگز ہرگز نہیں بلکہ جو اس زیارت قبور والی حدیث کے بہانے قرآن کے اس حکم کو موجودہ دور کی بے شرمی سے توڑنا جائز سمجھتا ہے وہ شیطان کے پنجہ میں ہے لہذا ثابت ہوا کہ اگر ایسے قرآن کا حکم ٹوٹتا ہے تو عورت کو اس حدیث پر اس طرح بے پردگی کے ساتھ عمل کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ارے آج کے مسلمان تو کہاں کھو گیا ہے جناب ہم تو بات کرتے ہیں دنیاداروں سے پرده کرنے کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تو شرم و حیا کی وجہ سے قبر والے دے بھی پرده فرماتی ہیں دیکھیں حضورؐ کے دفن کے بعد اور حضرت صدیقہ اکبرؓ کے دفن کے بعد آپ ویسے ہی تشریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سوائے اسکے نہیں کہ میرا خاوند ہے اور باپ ہے لیکن جب حضرت عمر فاروقؓ دفن ہوئے تو ان سے شرم و حیا کی وجہ سے مکمل طور پر پرده کر کے تشریف لاتے۔

(مشکوٰۃ الحجۃ 11 ص 378 باب زیارت قبور)

تو جناب اب ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا طریقہ دیکھئے اور پھر آج کل کے میلوں میں جانے

والی عورتوں کا طریقہ دیکھئے کہ کیا ایک جیسا ہے یہ فیصلہ ہم نے آپ پر چھوڑا۔

اگر غیرت سے خالی نہیں ہے دامن تیرا

تو پھر پوچھئے جنہوں کر ضمیر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے

## ﴿ گیارہویں شریف ﴾

برادران اسلام جماعت اہلسنت عموماً چاند کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوث اعظم کی خدمت عالیہ میں ایصال ثواب کے تخفیق پیش کرتے ہیں جو کہ گیارہویں شریف کے نام سے مشہور ہے لیکن بعض لوگ اس پر بھی طرح طرح کے حیلے اور بہانے بنابنا کر بے ہودہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں جو کہ اہلسنت کے نزدیک ایک تنکے کے برابر بھی کچھ وزن نہیں رکھتے۔

## ﴿ گیارہویں شریف کی اصل ﴾

سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ گیارہ تاریخ کو حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں ایصال ثواب کیا کرتے تھے جو بعد میں گیارہویں شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔

(گیارہویں شریف از محمد علم الدین ص ۵)

اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے بھی اسی گیارہ تاریخ کو اپنی آل اطہار اور امت کو ایصال ثواب کیا تھا جیسا کہ امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دفعہ سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈامنگا یا اور اسے ذبح کرتے وقت یوں فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد یعنی اے اللہ تعالیٰ اسے محمد ﷺ اور اس کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرماء (مشکوہ) تو جناب

جب حضور ﷺ نے یہ عمل کیا تھا یعنی اپنی آل اطہار اور امت کو ایصال ثواب کیا تو دن و سوام اور رات گیارہوں میں تھی تو چونکہ سرکار غوث اعظم بھی حضور ﷺ کی آل اطہار سے ہیں تو آپ نے بھی اس عمل کیا ہے دن و سوام اور رات گیارہوں کو اختیار فرمایا جو کہ جائز ہے اور اب بھی قربانی ایک مقررہ تاریخ یعنی دن سوام اور رات گیارہوں کو دی جاتی ہے۔

(گیارہوں شریف از علم الدین ص 21)

- 1- برادران اسلام ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ گیارہوں شریف چیز کیا ہے یعنی گیارہوں شریف کے کہتے ہیں۔
- 2- اس میں کیا عمل کیا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے متعلق قرآن و احادیث میں کیا دلائل ہیں۔

سوال: گیارہوں شریف کیا چیز ہے (جواب) برادران اسلام گیارہوں شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے سرکار غوث اعظم اور انبیاء اور اولیاء کی خدمت عالیہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کا ثبوت ہم قرآن و احادیث سے پیش کرچکے ہیں جس کے متعلق آپ اسی کتاب میں جہاں ہم نے ایصال ثواب کا ثبوت احادیث مبارکہ سے دیا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

سوال: گیارہوں شریف میں کیا عمل کیا جاتا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔

جوب: حضرات گرامی گیارہوں کے ختم کے وقت قرآن شریف پڑھا جاتا ہے دعائے خیر کی جاتی ہے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور آخر میں تبرک وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ قرآن و احادیث کے مطابق جائز ہے مثلاً دیکھیں (۱) قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے دلائل ہم قرآن و احادیث سے پیش کرچکے ہیں۔

2- دعائے ختم کی جانشی اور اس کے جائز ہونے کے دلائل بھی ہم قرآن و احادیث سے پیش کر سکتے ہیں۔

3- ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے دلائل بھی ہم احادیث مبارکے پیش کر سکتے ہیں۔

4- تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ بھی احادیث مبارکے سے ثابت ہے۔

یعنی عمل ختم کے بعد کسی کو کھانا وغیرہ کھانا خود حضور اور صحابہ کرام سے ثابت ہے دیکھیں حضرت عمر فاروقؓ نے حضور سے بارہ سال میں مورہ بقر و ختم کی تو آپ نے ایک اونٹ ذبح فرمایا اور بہت زیادہ کھانا کچوایا اور صحابہ کرام کو کھلایا (تعجب)۔ گیارہویں شریف از عجم الدین مراد آبادی ص(23) جس وقت حضور کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تو حضرت انس کی والدہ نے اسی خوشی میں آپ کی خدمت میں کچھ کھانا بھیجا تو آپ نے اس کھانے پر برکت کیلئے کچھ کلام پڑھا اور صحابہ کرام کو کھلایا جو تعداد میں تقریباً تین سو تھے۔ (مشکوٰۃ باب المجرات) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانے پر برکت کیلئے کچھ پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ قرآن ہو یا کوئی اور ذکر و اذکار جیسا کہ ختم کے وقت جماعت اہلسنت کا طریقہ ہے اور اسی طرح حضرت علی ہماروزہ رکھنے کے بعد شام کو کھانا فقیر کو کھلانا وغیرہ بلکہ وہابی اور دیوبندی بھی بعض دفعہ وعظ وصحت کے بعد تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا ہم مخالفین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس گیارہویں شریف کے عمل میں اگر کوئی خلاف شرع چیز ہے تو دلیل پیش کریں ورنہ خاموشی سے اپنے گھر پیشہ رہیں لہذا ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف یا قل ساتھ دسوال چالیسوال وغیرہ یا کوئی اور ختم ہو تو سب کا طریقہ اور عمل ایک ہی ہے مگر نام مختلف ہیں یعنی ان سب میں انہیاء و اولیاء اور تمام ایمانداروں کو ایصال ثواب ہی کیا جاتا ہے اور ان کے لئے دعا وغیرہ ہی کی جاتی ہے جو کہ جائز اور صحیح ہے اور اس کا ہجوت ہم قرآن و احادیث

سے پیش کر چکے ہیں۔

سوال: کیا تم اس پیر کو گیارہویں شریف کا ثواب پہنچاتے ہو جس نے ایک مائی کامیٹر اڈ بو دیا تھا۔

جواب: جناب یہ سوال ہی جہالت پر منی ہے کیونکہ وہ بیٹر ان غوثِ اعظم نے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ڈوباتھا اور اس کے علاوہ یہ سوال سر کار غوثِ اعظم کی شان میں نہایت بے ادبی اور گستاخی کا جملہ ہے اور اس کے علاوہ ایک طرف تو تم خود ہی کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور یہاں کہتے ہو کہ بیٹر ان غوثِ اعظم نے ڈوبایا تھا۔ ارے تم تو خود ہی اس بیڑے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر رہے ہو اور ہاں وہ تو ایک بیڑا تھا یہ جو سمندروں میں کئی بیڑے اور جہاز غرق ہو جاتے ہیں اور یہ جو ایک سیڑنٹ ہو جاتے ہیں یہ کس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ جناب یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں تو پھر اب اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیں۔

## ﴿ضروری اعلان﴾

برادران اسلام یہ جو کچھ ہم نے تحریر کیا ہے یہ اس لئے نہیں کیا کہ یہ غریب اور بے سہار الگوں کیلئے بوجھ بن جائے۔

ہاں اس لئے کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس عمل پر حرام یا بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس فعل کا بخوبت قرآن و احادیث میں صاف لفظوں میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب اور بے سہار الگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ دوستو یہ عمل بیشک جائز تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل فرض یا واجب ہرگز نہیں ہے یعنی کہ لوتو ثواب ہے اور نہ کرو تو گناہ نہیں ہے اگر جیب اجازت دے تو کرو ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرض

لے کر اپنی جان پر ضرور بوجھو ڈالیں یعنی قرض لے کر اپنی جان پر بوجھنہیں ڈالنا چاہئے کیونکہ اصل مقصد تو ایصال ثواب کرنا ہے اور ایصال ثواب تو اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقوں سے کیا جاسکتا ہے مثلاً تلاوت قرآن، درود شریف، کلمہ شریف، ذکر و اذکار، نوافل اور روزہ وغیرہ سے۔ اور صرف مرغ، پلاو، زردے اور فرنیوں کی دیگوں سے ہی نہیں بلکہ اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں مثلاً دیکھیں کہ جو شخص ایک دفعہ سورہ نبیین شریف پڑھتا ہے تو اس کو دس قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ فضائل قرآن)

اور جو شخص تین دفعہ قل شریف پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ فضائل قرآن)

اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی دو آیتیں دو اونٹیوں سے بہتر ہیں تین آیتیں تین اونٹیوں سے اور چار آیتیں چار اونٹیوں سے بہتر ہیں اور آیتوں کی تعداد اونٹیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ (مشکوٰۃ فضائل قرآن)

اور جو شخص آیتہ الکرسی پڑھکر اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قبر والے کو چالیس چالیس نور عطا فرماتا ہے جن کی روشنی مشرق و مغرب تک پھیل جاتی ہے۔

(نزہت الجاسوس 299)

اور جو شخص اس طرح دور کعت نفل پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی اور الہکم التکاثر اور قل شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے اور پھر اس کا ثواب فوت شدہ کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک ہزار فرشتے کو فوت شدہ کی قبر کی طرف چانے کا حکم فرماتا ہے اور ہر ایک فرشتے کے پاس انوار و تجلیات کا وسیع ہدیہ ہوتا ہے جس سے وہ نقش صورتک اس کا دل بہلاتے ہیں اور ایصال ثواب کرنے والے کیلئے چالیس ہزار درجے بلند کئے جائیں گے اور چالیس ہزار حج و عمرہ کا ثواب لکھا

جاتا ہے اور جنت میں اسے ایک ہزار شہروں کا مالک بنایا جاتا ہے اور اسے اتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی کہ جتنی دنیا کی تمام چیزوں پر سورج کی شعاع میں پڑیں گی اور اسے ہزار شہداء کا ثواب دیا جائے گا اور ہزار جوڑے مرحمت کئے جائیں گے۔ (نزہت المجالس ص 300)

اور ہاں سالانہ ختم کے علاوہ اگر ہر روز ایصال ثواب کیلئے کوئی تھوڑا بہت وظیفہ مقرر کر لیں تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہے مثلاً سورہ یسین یا قل شریف یا تلاوت قرآن یا کلمہ درود یا نوافل وغیرہ کیونکہ کہاں سال کے بعد ثواب پہنچانا اور کہاں ہر روز ایصال ثواب کرنا اگرچہ تھوڑا ہی ہو مثلاً دو فل یا چار فل یا ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ قل شریف یا صرف ایک دفعہ سورہ یسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جو کہ دس قرآن کے ثواب کے برابر ہے تو یہ بھی فوت شدہ کیلئے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور اس کے لئے بلندی درجات اور ہزار خوشیوں کا سبب ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ ایک شخص کو سال کے بعد ایک دفعہ کھانا کھلادینا اور دوسرے کو ہر روز کھلانا یہ کتنا فرق ہے۔

دیکھیں صحابہ کرام نے اپنے فوت شدہ کو صدقہ کا ثواب پہنچانے کیلئے جب بھی حضورؐ سے پوچھا تو آپؐ نے کھلے لفظوں اس کی اجازت عطا فرمائی ہے اور منع ہرگز نہیں فرمایا جیسا کہ ایصال ثواب کے باب میں گزر چکا ہے اور صدقہ ہر نیکی کو کہتے ہیں جیسا کہ صدقہ کے بیان میں گزر چکا ہے لہذا آپؐ جس بھی صدقہ سے ایصال ثواب کریں گے ہو جائے گا۔

بہر حال جائز طریقے سے جس طرح بھی کریں سو کریں مگر قرض سے اور خلاف شرع کام سے بچنا چاہئے اور اس کے علاوہ جو لوگ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے معجزے اور دس نبیوں کے قصے اور کہانیاں وغیرہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ ایسے مجنزوں اور قصے کہانیوں کی بجائے قرآن پاک درود شریف کلمہ شریف اور نوافل وغیرہ پڑھ کر اور محفل ذکر کر کے ان کا ثواب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچائیں کیونکہ

ہمارے نزدیک مجذہ صرف نبی کا ہوتا ہے غیر نبی کا نہیں اور نہ حضرت علی نبی تھے نہ حضرت فاطمہ نبی تھیں ہاں کچھ شیعہ حضرات کا ایسا عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور دس بیسوں کی کہانی کے صفحہ 2 پر بھی لکھا ہے کہ یہ ایک مجذہ ہے اور اسی صفحہ پر ایک شعر یون لکھا ہے کہ لمحہ لمحہ ویکھیں گے آپ مجذہ ہائے سیدہ الہدا یہ شیعہ حضرات کے نزدیک صحیح ہو گا لیکن ہمارے عقیدہ کے مطابق ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے جو غیر نبی کو نبی کے مقام پر لاکھڑا کرے اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس قصے کی بنیاد بھی تو صرف خواب پر رکھی گئی ہے اور پھر ان دس بیسوں کے واقعات کا بھی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

## ﴿ چند نصیحت آموز واقع ﴾

- 1 - ہمارے ایک ساتھی نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص سائکل پر کپڑا بینچنے کیلئے تقریباً دس گیارہ دن بعد آیا کرتا تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا جو اسکے ساتھ آتا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ نظر نہ آیا آخر ایک دن راستے میں خالی سائکل پر ملا اور میں نے اس کا حال چال پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فوراً روپڑا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ وہ جو میرا لڑکا تھا وہ بیمار ہو گیا اور میرا دس پندرہ ہزار کا کار و بار تھا وہ ہسپتالوں میں علاج معا لجے پر لگ گیا اور لڑکا بھی فوت ہو گیا تو فونگی پر جب عزیز واقارب جمع ہوئے تو جن سے تھوڑا بہت لینا تھا وہ لے کر گزارہ کیا اور پھر جب جانے لگے تو بڑے بن ٹھن کر کہنے لگے کہ بھائی ساتھ کب کرنا ہے تو میں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو پھر وہ اس تاریخ کو سب کے سب آگئے پھر قرض لے کر گزارہ کیا تو پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی دسوں کب کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہوا پھر جاتے وقت کہنے لگے کہ بھائی بیسوں کب کرنا ہے پھر اسی طرح ہوا پھر جاتے وقت کہنے لگے کہ بھائی چالیسوں

کب کرنا ہے بھروسی طرح ہوا لہذا اب حال چال کیا پوچھتے ہو اب حال یہ ہے کہ لڑکا بھی فوت ہو چکا ہے اور جن پیسوں کا کاروبار کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور کاروبار بھی بند ہو چکا ہے اور اب لوگوں کا مقروض بن کر پریشان اور خالی ہاتھ پھر رہا ہوں۔

2- اسی طرح ایک اور ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک غریب آدمی فوت ہو گیا تو اس کا لڑکا قل شریف کے ختم کیلئے چنے اور مکھانے وغیرہ سائیکل پر رکھ کر آرہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ختم کیلئے چنے ہیں تو میں نے پوچھا کہ پسے کہاں سے لئے تھے تو وہ کہنے لگا کہ فلاں چوہدری صاحب سے قرضہ لیا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں کہ جس کیلئے تم نے قرضہ لیا ہے لہذا تم نے قرض لے کر خواہ مخواہ اپنی جان پر بوجھڈا لا ہے۔

3- ایک شخص کا والد فوت ہو گیا تو اس کی برادری کہنے لگی کہ ختم پر چار (4) من مرغ کا گوشت اور سوادوں دودھ کا دی اور چچ (6) دیگیں چاول ضرور ہوں لہذا اس قسم کی شرمناک اور فضول رسموں سے بھی بچنا چاہئے کیونکہ ایک طرف تو اہل خانہ کا عزیز فوت ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف خواہ مخواہ ہم اسے ہزاروں روپے کا مقروض کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بڑے ختم یعنی چالیسویں وغیرہ پرسات بزریاں سات کھانے چھابی پونا، گلاس، چیچ، پیالی اور سات قسم کی مشہائی وغیرہ ختم میں ضرور ہوں اور پہلے بہنیں ہزاروں روپے کے کپڑے لائیں اور پھر بھائی ان کو ہزاروں روپے کے کپڑے دیں اگرچہ کسی سے قرضہ لے کر ہی دیں بلکہ اکثر جگہ تو بیٹوں اور بیٹیوں کو قیمتی سوت اور زیور دیئے جاتے ہیں جس کے متعلق علامہ طاہر القادری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ظالمو کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ تم نے مرگ اور غمی کے وقت کو بھی شادی یعنی خوشی میں بدل دالا ہے۔ (ایصال ثواب کی شرعی حیثیت 101)

حضرات گرامی قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تو یہی وہ غمی کا وقت ہوتا ہے دوسرا خواہ مخواہ ایسی فضول رسموں کے بوجھ سے ہم اور بھی پریشانی کا سبب پیدا کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے وہ کام کریں کہ جس سے فوت شدہ کو زیادہ فائدہ ہو مثلاً علم دین حاصل کرنے والے طالب علموں کی خدمت کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جس کتاب یا چیز کی ضرورت ہو وہ کتاب یا چیز لا کر دے دی جائے یا مسجد میں قرآن سپارے صفحیں دریاں پکھے لا کر دے دیئے جائیں جس کا مردے کو زیادہ فائدہ بھی ہو یعنی جس مقصد کیلئے ہم جمع ہوتے ہیں بہر حال اس عمل کیلئے اگر جیب اجازت دے تو کرو ورنہ بے شمار ایسے طریقے موجود ہیں کہ جن سے بغیر خرچہ کے بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے مثلاً تلاوت قرآن، درود شریف، کلمہ شریف، ذکر اذ کار نوافل اور روزہ وغیرہ کا ثواب ایک شخص ایک قبر کے قریب دور کعت نماز پڑھ کر لیٹ گیا ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ قبر سے کوئی شخص کہتا ہے کہ تم عمل کرتے ہو اور ہم نہیں کر سکتے خدا کی قسم اگر تیری طرح میں بھی دور کعت پڑھ سکتا تو مجھے یہ تمام دنیاوما فیہا سے عزیز ہوتا۔

(روحوں کی دنیا ص 48)

برادران اسلام اب اتنی تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی جان پر قرض کا بوجھ ڈالے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے ورنہ شریعت نے تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا اس کے علاوہ ہمارے ہر ساتھی کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اگر فوت شدہ کے وارث غریب ہوں یعنی ان کی مالی حالت کمزور ہو تو جنازہ کے علاوہ دسویں بیسویں اور چالیسویں وغیرہ پر بار بار جا کر فوت شدہ کے وارثوں کیلئے بوجھ اور پریشانی کا سبب ہرگز نہیں بننا چاہئے اور اس کے علاوہ جو امیر اور دولت مند حضرات ایسے موقع پر مرغ اور فرنیاں وغیرہ کی دیگوں پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہئے کہ یہ کوئی خوشیاں منانے اور نفس پرستی کا وقت تو ہے نہیں ہاں اگر مال و دولت خرچ کرنا ہی

ہے تو پھر کوئی ایسی مسجد دیکھیں جو زیر تعمیر ہو جہاں کسی سکھے، موڑ، ٹیوب، فرش، صفوں کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا مدرسہ دیکھیں جہاں باہر سے آ کر طالب علم علم دین حاصل کر رہے ہوں ان کی رہائش کھانے پینے کا انتظام اور کتابوں وغیرہ کے خرچہ پر غور کریں یا کوئی محلے میں یتیم یوہ بے سہارا احتاج اور غریب یا کسی غریب کی بھی غربی کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہے ایسے کاموں پر اپنا روپیہ خرچ کر کے اس کا ثواب اپنے فوت شدہ کو پہنچائیں ہاں جب ایصال ثواب کے لئے کھانے کا انتظام بھی کیا جائے تو محلے کے محتاج اور بے سہارا اور غریبوں مسکینوں یتیموں اور بچوں کا بھی خاص خیال رکھیں اور صرف اپنے دوستوں کا ہی پیٹ نہ بھریں اور اگر اہل خانہ میں سے کوئی یتیم ہو تو وہاں کھانا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ولا فقرب و امال الیتیم۔ ترجمہ۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ (8-6-152) ان الذین الخ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے بیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں۔ (10-4-12) یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ (15-4-34)

الہذا یتیم کے مال سے بھی ختم کا کھانا نہیں کھانا چاہئے۔ ہاں اس کا وارث اپنے مال سے کرے تو کچھ حصہ نہیں ہے (بہار شریعت حصہ 4- ص 136) اور اس کے علاوہ دکھلوے یا برادری کے ڈر سے کہ برادری کیا کہے گی یا برادری گردن پر گوڑا رکھ کر کھانا لینا چاہتی ہیکہ ہم سے کھایا تھا اب مر گیا ہے؟ اس صورت میں بھی کھانا نہ کھائے کیونکہ یہ تو دکھلوے اور بھاجی ہے اس کے متعلق دیکھیں ایک سخنی: شہید اور عالم کی تمام زندگی سے عبادت برپا ہو گئی۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم) اور سوگ کے دنوں میں فوت شدہ کے گھر سے کھانا نہ کھائیں (بہار شریعت حصہ 4- ص 135-136) اور اس کے علاوہ ختم کے موقع پر پیکر و نیں میں اعلان وغیرہ کرنے سے بھی پرہیز بہتر ہے کیونکہ اس میں بھی ریاء اور زیادہ بوجھ سے نجات کا سبب ہے اور اس کے علاوہ غلط رسماں

اور بھاچیوں وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا چاہئے مثلاً میت کا وارث اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہزاروں روپے کے قیمتی کپڑوں کے جوڑے اور قیمتی ذیور وغیرہ دے یا اس جیسے کسی اور بوجھ تلے ڈالنے سے خصوصاً اس موقع پر پرہیز کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ ایک اور زائد رسم کی وجہ سے ہم بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور شادی بیاہ جتنا خرچہ لگ جاتا ہے جس سے غریب لوگوں کو مشکل بن جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ فوٹگی پر ہم چالیسویں وغیرہ پر بہت دھوم دھام کے ساتھ کارڈ چھٹیاں اور پیغام وغیرہ بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے چالیسویں پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں مہماں آ جاتے ہیں جو کہ اہل میت پر بوجھ کا سبب بنتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس سے بھی بچنا چاہئے اور ہاں صرف فوٹگی کی اطلاع بہتر ہے۔ مثلاً جو رشتہ دار اطلاع یا فون کرنے سے جنازہ پر ہی آ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ پیغام پہچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم چالیسویں پر ایصالِ تواب کرنے لگے ہیں لہذا سب کے سب آ جاؤ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چالیسویں پر کسی کو خط یا فون ہی نہ بھیجا جائے کیونکہ اس وقت سب کو اکٹھا کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے ہاں جن کو اطلاع نہیں پہنچ سکی دوبارہ صرف ان کو ہی اطلاع کرنی چاہئے مثلاً ایک آدمی کی بیس (20) جگہ رشتہ داری ہے جن میں سے 18 توجہ جنازہ میں شامل ہو گئے تو باقی دو (2) رہ گئے تواب صرف دو کی وجہ سے ہی 20 کے 20 کو دوبارہ بلانے کی کیا ضرورت ہے اور پھر چالیسویں کی اطلاع پر ہم رشتہ داروں کے رشتہ دار آگے پھرا نکلے رشتہ دار آگے پھرا نکلے رشتہ داروں کو بڑی دھوم دھام سے بلاستے ہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہئے اور پھر ہر رشتہ دار اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق کوئی تو قیمتی کپڑوں کے سوت لا رہا ہے اور کوئی زیور یعنی کوئی کچھ اور کوئی کچھ یعنی صرف ایک شخص کی موت پر اپنی اپنی جگہ پر تمام رشتہ داروں کو خرچہ وغیرہ کی فکر لگ جاتی ہے یعنی جس طرح ہم نے شادیوں پر بھاچیاں بناؤالی ہیں اسی طرح ہم نے مرنے پر بھی بھاچیاں بناؤالی ہیں لہذا ہم کو ان سے بھی بچنا چاہئے تاکہ اپنی

اپنی جگہ پر تمام رشته داروں میں سے کسی کو بھی خرچہ کی فکر نہ ہو ہاں جتنے قرآن یا پارے پڑھے جائیں یا زیادہ سے زیادہ جتنے نوافل پڑھے جائیں یہ پڑھ کر لانا چاہئے جو اصل کام ہے اور چالیسویں وغیرہ پر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو بلا نابوکی فرض یا واجب ہرگز نہیں شہنسہر شریعت نے یہ بوجھڈا لایا ہے اور نہ یہ پابندی لگائی ہے اور چالیسویں پر جور و کھاسو کی تھوڑا بہت کھانا یا شرینی ہو ختم پڑھ کر تقسیم کر دیا جائے اگرچہ دوآدمی موجود ہوں یا دس اور برادری یا لوگوں کے ڈر سے بھی نہ کھلائے کہ یہ ریاء اور دکھلاوہ ہے جیسا کہ بعض جگہ رسم تھی کہ اگر برادری کو نہ کھلایا جاتا تو بھری پنچایت میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا پڑتی تھی۔ (خطبات محرم ص 27 باب مان باپ کا کھانا) اور بعض جگہ کسی بڑے کے مرنے پر پیسے باشندے ہیں یا شادی بیاہ کی طرح کھانا کھلاتے ہیں۔ (خطبات محرم ص 527) ایسے بھی نہیں کرنا چاہئے۔

### ﴿غريب لوگوں کیلئے نہایت ہی مفید اور ضروری پیغام﴾

برادران اسلام فوتگی کے بعد چالیسویں کیلئے ہزاروں میں سے کسی ایک کو بھی بالکل نہ کوئی خط لکھیں اور نہ پیغام بھیجیں مگر جسے فوتگی پر اطلاع نہ پہنچ سکی ہو یا جو نماز جنازہ کے وقت نہ پہنچ سکا ہو اور پھر چالیسویں پر ایصال ثواب کیلئے جتنے قرآن شریف پڑھے جائیں یا ہر روز جتنی دفعہ سورہ یعنی پڑھی جائے یا جتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے یا جتنے نوافل پڑھے جائیں یا جتنی دفعہ کلمہ شریف یا کوئی اور ذکر اذکار کیا جائے پورا ذور لگا کر کریں اور چالیسویں پر اگر توفیق ہو تو محلے کی مسجد سے چند بچوں کو بلا کر قرآن مجید ختم کرائیں اور دس بیس روپے کی شیرینی منگوا کریا گھر میں ہی کوئی تھوڑی بہت چیز پکا کر اس پر ختم پڑھ کر تقسیم کر دیں اور فوت شدہ کو ان چیزوں کا ثواب پہنچا دیں کیونکہ اصل مقصد تو ثواب پہنچانا ہی ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کی کوئی

ضرورت ہی نہیں ہے اور ہاں سینکڑوں رشتہ داروں کو بھی بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ان کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوتا بلکہ بعض جگہ سننے میں آیا ہے کہ اگر چالیسویں پر خط نہ لکھیں تو اعتراض کرتے ہیں تو ہم ان جاہلوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا تمام کے تمام رشتہ داروں کا پھر آگے ان کے رشتہ داروں کا چالیسویں کے ختم میں شامل ہونا کوئی فرض ہے یا واجب دلیل پیش کریں۔ یا ان جو شرعی طور پر منزدہ حیز بیسیں انکی طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں مثلاً عازمہ دعیرہ کا حضرات گرامی دیکھیں کہ جس طرح ہم بیاہ شادی کے موقع پر فضول اور شیطانی رسماں کو بڑھا رہے ہیں اسی طرح ہم اس چالیسویں کے موقع پر بھی تمام رشتہ دار برداری اور عزیزی واقارب کے جمع ہونے کی فضول رسماں کو فرض کی طرح لازمی اور ضروری قرار دے کر اس رسماں کو بڑھا رہے ہیں اس لئے ہمیں اسے بھی ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں روپے کے سوٹ اور زیورات وغیرہ بھی ہرگز لے کر نہیں جانا چاہیے اگرچہ کتنا ہی قربی رشتہ دار ہو کیونکہ اسی رسماں تو بیاہ شادی یعنی خوشی کے وقت ہوتی ہیں نہ کہ غنی کے وقت اس لئے ہمیں اس فضول رسماں کو بھی ختم کرنا چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے کہ ایسی فضول اور نکارہ رسماں سے عوام کو منع کریں تاکہ یہ عمل کسی کیلئے بوجھ نہ بنے۔

## ﴿الایصال ثواب کرنے لیعنی ختم پڑھنے کا طریقہ﴾

عزیزم سب سے پہلے کوئی سورۃ یارکو ع پڑھے پھر ایک مرتبہ سورہ کافروں تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور ناس پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ مظلومون تک پڑھے پھر "ان رحمۃ اللہ قریب هن الْمُحْسِنِينَ الَا ان اولیاء اللہ لَا خوف علیہم و لَا هم يَحْزَفُونَ و مَا ارْسَلْنَاكَ الْا رَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدًا ابَا اَحَدٍ

من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شی علیما ان الله وملئکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو اصلوا علیه وسلموا اتسلیما۔

اس کے بعد درود شریف پڑھ کر "الله اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد" پڑھے اور دعائیں نگے اے اللہ تعالیٰ اس تمام کلام اور جو کچھ حاضر ہے اس کا ثواب ہماری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ و تحفۃ پہنچادے پھر تمام انبیاء و رسول کو پھر آل پاک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے پہنچادے خصوصاً فلان کی روح کو یعنی جس کے نام کا ختم ہے اگر کھانے کا انتظام ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچادے آخر میں ہم پھر مخالفین کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے ختم کا طریقہ اگر جرأت اور ہمت ہے تو اسے قرآن و احادیث سے حرام اور ناجائز ثابت کریں۔

سوال: جی یہ جو کچھ ختم نے لکھا ہے اس طرح ایصال ثواب کو توسیب ہی مانتے ہیں۔

جواب: جناب اگر سب مانتے ہیں تو یہ ہی ہمارا طریقہ ایصال ثواب یعنی ختم کا ہے اور ہم ختم میں کوئی گز نہ یا ہمیرا نجھا وغیرہ ہر گز نہیں پڑھتے ہم اسے ہی ختم کہتے ہیں جسے تمہارے قول کے مطابق سب مانتے ہیں اور اسی کو ہم نے قرآن و احادیث سے جائز ثابت کیا ہے۔

### ﴿ایک لطیفہ﴾


برادران اسلام مخالفین کا عقیدہ بھی کیا ڈاولہ نما عقیدہ ہے کہ اگر اسے اوپر سے پکڑو تو نیچے سے تڑپتا رہتا ہے اور اگر نیچے سے پکڑو تو اوپر سے تڑپنے لگ جاتا ہے اور اگر درمیان سے پکڑو تو اوپر اور نیچے یعنی دونوں طرف سے ہی تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔

تو برادران اسلام اسی طرح مخالفین کا حال ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ ختم کا ثبوت قرآن و احادیث میں موجود نہیں ہے جب اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے پیش کیا تو کہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اس کا جواب دیا تو بولے کہ یہ بدعت ہے اس کا جواب دیا تو کہنے لگے کہ اس میں وقت مقرر کرنا جائز نہیں اس کا جواب دیا تو کہنے لگے کہ کھانا کھلانا صحیح نہیں ہے اس کا جواب دیا تو کبھی کسی طرف نکل گئے اور کبھی کسی طرف نکل گئے اور آخر میدان سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔

### چیلنج

حضرات گرامی مخالفین سے ہمارا چیلنج ہے کہ جس طرح ہم نے اس ایصال ثواب یعنی ختم کو قرآن و احادیث سے کھلے لفظوں جائز ثابت کیا ہے اگر اس میں ہمت ہے تو وہ بھی اسے اسی طرح کھلے لفظوں قرآن و احادیث سے حرام ثابت کرے۔

کیونکہ عام طور پر ہم ختم میں جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں ہم نے صاف لفظوں میں یعنی روشن دلائل کے ساتھ ان کا قرآن و احادیث سے جائز ہونا ثابت کر دیا ہے لہذا جو شخص اب بھی ہمارے اس ختم یعنی ایصال ثواب کو گناہ حرام یا منع کہتا پھرتا ہے تو ہمارا چیلنج ہے کہ جس طرح ہم نے اس ختم یعنی ایصال ثواب کو قرآن و احادیث سے صاف اور روشن دلائل کے ساتھ جائز ثابت کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح قرآن و احادیث سے صاف اور روشن دلائل کے ساتھ اسے حرام اور منع ثابت کرے۔



## ﴿نَفِيٰ كَامِدِي بُھِي دلائِل پیش کرے﴾....

- (۱) قل حاتوا برہا نکم الحتم فرمادو کہ لا وَا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ (پ ۱، ع ۳۳، آ ۱۱۱)
- (۲) قل حاتوا برہا نکم الحتم فرمادو کہ لا وَا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ (پ ۲۰، ع ۱، آ ۶۶)
- (۳) ام لکم سلطنه الخ اگر تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے تو لا وَا اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ (پ ۲۳، ع ۹، آ ۱۵۶)

(۴) من یجادل الخ اور جو شخص علم کے بغیر اللہ کے متعلق جھگڑے کر جس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی روشن کتاب اور اپنی گردن حق سے پھیرنے کے اللہ کی راہ سے گراہ کرے تو اس کیلئے دنیا میں رسوانی ہے اور قیامت کے دن، ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے (3-8-17)

(۵) قل حلم الحتم فرمادو کہ لا وَا اپنے وہ گواہ کہ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے (پ ۸، ع ۵، آ ۱۵۰)

(۶) و ان کلتم الخ اور اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورۃ اور تم بلا لو اپنے سب جماعتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہم فرمادیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ذروا اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں جو تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے (24-3-1)

## ..... خلاصہ .....

حضراتِ رحمی ختم نام ہے ایصالِ ثواب کا اور ایصالِ ثواب کہتے ہیں فوت شدہ کو ثواب پہنچانے کو اور اب سلسلہ یہ ہے کہ کوئی چیز کا اور کتنی چیزوں کا ثواب پہنچایا جائے تو جواب حاضر ہے کہ قرآن و احادیث کے مطابق جو بھی عمل نیک ہے آپ اس کا ثواب پہنچاسکتے ہیں اگر چہ وہ ایک ہی عمل سے ہو یا ہزاروں بلکہ لاکھوں نیک اعمال سے ہو تو جناب اب دیکھتے کہ ختم میں ہم جن نیک اعمال کا ثواب پہنچاتے ہیں ان کا جائز ہونا ہم قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت کر چکے ہیں مثلًاً دیکھیں۔

- (۱) قرآن مجید پڑھنا۔ اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۱ دیکھیں
- (۲) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے جائز ہونے کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۲ دیکھیں
- (۳) قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۳ دیکھیں
- (۴) حضور ﷺ پر درود شریف پڑھنا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۴ دیکھیں
- (۵) فوت شدہ کیلئے دعائے مغفرت کرنا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۵ دیکھیں
- (۶) فوت شدہ کو ایصالِ ثواب کرنا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۶ دیکھیں
- (۷) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۷ دیکھیں
- (۸) اپنی حلال کمائی سے عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا اور اس کے متعلق ہماری پیش کردہ دلیل نمبر ۸ دیکھیں

تو جناب ثابت ہوا کہ ختم میں ہم جن نیک اعمال کا ثواب پہنچاتے ہیں ان کا جائز ہونا قرآن و احادیث سے کھلے الفاظوں ثابت ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ تو جائز ہیں

لیکن ان کو جمع کرنا منع اور حرام ہے تو جناب ان کا جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہونا یہ دلیل پیش کرنا تمہارے ذمہ ہے ہمارے نہیں۔ اور ہاں اگر مخالف اسے ناجائز ثابت نہ کر سکتے تو سن لو خبردار جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام نہیں کیا تو کسی دوسرے کو کیا حق جرات طاقت اور اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس۔ رسول ﷺ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتا پھرے۔

﴿دھوکے اور چالاکی سے حقیقت کیے بدلو گے﴾

﴿افسانہ آخrafسانہ ہے حقیقت پھر حقیقت ہے﴾

(سوال) کہانے پر قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے اس لئے حرام ہے جیسے ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے قرآن پڑھا جائے یا الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔

جواب۔ (۱) جناب اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے کیا وہ حرام ہے ہرگز نہیں۔

(۲) اور کہانے پر مطلق کوئی بھی چیز پڑھنا سنت ہے حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے حلوبے پر جو اللہ نے چاہا وہ کلام پڑھا۔ (مشکوٰۃ الجمیل ص 378 باب مجذات)

(۳) اب رہا ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے قرآن یا صلوٰۃ والسلام پڑھنے کی مثال پیش کرنا تو یہ بھی نہایت ہی کم علمی اور جہالت کی علامت ہے کیونکہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا طریقہ خود حضور ﷺ نے مقید اور مقرر فرمادیا ہے اور کہانا سامنے رکھ کر اس پر مطلقًا کوئی بھی چیز پڑھنا یہ بھی خود

حضورؐ سے اسی ثابت ہے اس لئے مقید اور مقرر کو غیر مقید اور غیر مقرر یعنی مطلق کے ساتھ ملانا نہایت ہی کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ مطلق کو مقید کے ساتھ ہرگز نہیں ملا جائے سکتا۔ جیسے رکوع وجود میں کلمہ یاد رود یا تلاوت نہیں پڑھ سکتے صرف تسبیح وغیرہ ہی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ بھی حضور ﷺ نے مقرر فرمادیا ہے۔ لیکن عام حالت میں یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔

(سوال) حدیث میں تو ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور تم آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔

(جواب) جناب بتیب ہے کہ جب کھانا کھانے لگے لیکن ختم کے وقت تو اللہ کا کلام پڑھنے کیلئے کھا۔

سامنے رکھا جاتا ہے نہ کہ کھانے کیلئے اور نہ ہی اس وقت کسی کو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے ہاں ختم کے بعد کھانا دیا بھی جاتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا بھی جاتا ہے۔

اور ہاں اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں کسی فوت شدہ کو ایصالِ تواب کریں تو اگر ہو سکے تو اس کے نام پر کسی غریب کو کپڑا وغیرہ بھی دے دیا کریں۔ کیونکہ اس کا اجر بھی فوت شدہ کو ضرور ملتا ہے۔

۱۔ ایک شخص نے بتایا کہ میری بیوی فوت ہونے کے بعد اس حال میں نظر آئی کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے بیداری کے بعد اس کے نام پر ایک غریب کو سوٹ دیا تو اب جو خواب میں دیکھا تو وہی سوٹ اس نے پہن رکھا ہے اور شکر یہ ادا کر رہی ہے۔

۲۔ ایک شخص نے بتایا کہ اس نے والدہ کے نام پر آسمانی رنگ کا ایک سوٹ کسی غریب کو دیا ہے تو چند دن بعد اس کی دادی صاحبہ خواب میں شکوہ کرتے ہوئے ملیں کہ تم نے ان کو تو سوٹ دیا ہے اور مجھے نہیں دیا پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا تو کہا کہ انہوں نے پہن رکھا ہے۔ پوچھا کیسا ہے تو کہا آسمانی رنگ کا تو ثابت ہوا کہ اس عمل کا اجر بھی فوت شدہ کو ملتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں یعنی یہ مقال ذرۃ خیر ایرہ

۳۔ ایک شخص نے خواب میں بہت سے عورتیں دیکھیں لیکن اپنی بیوی نہ دیکھی اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے کفن میں کوتا ہی کی اس لئے وہ ہمارے ساتھ آنے میں شرم محسوس کرتی ہے ایک آدمی فوت ہوا تو اس نے اس کے کفن میں ایک کفن رکھا تو اب جو خواب میں دیکھا تو وہ عورت وہی کپڑے پہن کر کھڑی ہے۔ (شرح الصدور-178)

﴿ تمت بالخیر ﴾



النيل ونهر النيل ونهر النيل